

قال النبي ﷺ

بِمَوْقَعِ تَحْفِظُ أَنْتَ كَانَ قَرْنَسْ
نَقِيرًا هَذَا مَامَ جَمِيعُ الْعُلَمَاءِ هُنْ

صَلَوةً كَارَأْتُمُونِي أَصْلِي

مسائل نماز

جس میں مذکورہ ہر ہر مسئلہ کا ثبوت
قرآن، احادیث اور آثار صحابہ سے پیش کیا گیا ہے

تألیف

جَبِيلُ الرَّحْمَنِ الْعَظِيْمِ

اسْتَادُ حَدَيْثَ دَارِ الْعُلُومِ دِيوبَندِ

جمعیۃ علماء ہند بہادر شاہ ظفر مارگ نئی دہلی

قال النبي ﷺ

صلوا كماراً يتمنى اصلی

مسائل نماز

جس میں مذکورہ ہر ہر مسئلہ کا ثبوت

(قرآن، احادیث اور آثار صحابہ سے پیش کیا گیا ہے)

تألیف

حبيب الرحمن عظیمی

استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند

شائع کردہ

جمعیت علماء ہند۔ ا، بہادر شاہ ظفر مارگ نتی دہلی۔ ۲

تفصیلات

نام کتاب	: مسائل نماز
تالیف	: حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی
	- استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند
کپیوٹر کتابت	: قاسی کپیوٹر سینٹر
من طباعت	: حرم الحرام ۱۴۲۲ھ مطابق می ۲۰۰۱ء

موقع

تحفظ سنت کانفرنس

۷/۸، صفر المظفر ۱۴۲۲ھ / ۳/۲، می ۲۰۰۱ء

زیر اہتمام جمیعت علماء ہند

پیش لفظ

بسم اللہ الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لاتبى بعده ، وعلى
الله وصحبه ومن اتبع منه وهمية.

لما بعد: نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے، ساری عبادتوں سے اس کا درج
بلد ہے، تب پاک ﷺ فرماتے ہیں ”رأس الأمر الاسلام وعموده الصلاة“
(رواہ الترمذی) دین کی اصل اسلام یعنی ایمان ہے اور اس کا ستون نماز ہے،
قیامت کے دن تمام عبادتوں سے پہلے نمازی کے بارے میں سوال ہو گا حدیث
پاک میں ہے ”أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيمة الصلاة ، فإن
صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله“ (رواہ الطبرانی)
پہلی چیز جس کا بندہ سے قیامت کے دن حساب لیا جائے گا نماز ہے، اگر نماز ٹھیک
رہی تو سارے اعمال ٹھیک ہوں گے اور اگر نماز خراب رہی تو سارے عمل خراب
ثابت ہوں گے۔

سفر، حضر، امن و خوف ہر حالت میں نماز کی محافظت اور پابندی کا حکم ہے،
التدرب العزت کا فرمان ہے۔

حافظوا على الصلوٰات والصلوة الوسطى وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ ،
فَإِنْ خَفْتُمْ فِرِجاً لَا أُورْكَبَانَا فَإِذَا آمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّهَ كَمَا عَلِمْتُمْ مَالِمْ
تَكُونُوا تَعْلَمُونَ . (ابقرة: ۲۳۸-۲۳۹)

محافظت کرو سب نمازوں کی اور (بخصوص) درمیان و میان نماز (یعنی عصر)

کی اور (نماز میں) کھڑے رہا واب سے، پھر اگر تم کو خوف ہو (کسی دشمن وغیرہ کا) تو کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھے چڑھے پڑھ لو (یعنی اس حالت میں بھی نماز کی پابندی کروائے ترک نہ کرو پھر جب تم کو اطمینان ہو جائے تو خدا کی یاد (یعنی ادائے نماز) اسی طریقے سے کرو جس طرح تم کو سمجھایا ہے جس کو تم جانتے نہ ہتے۔

نماز میں کوتاہی کرنے والوں پر سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ نیپاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

"من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيمة ، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نوراً وبرهاناً ولانجاةً و كان يوم القيمة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف" (رواہ احمد والطبرانی باسناد جيد)

جو شخص نماز پر مداومت اور بیعتگی کرے گا اس کے لیے نماز قیامت کے دن تورایمان کی دلیل اور نجات ہو گی، اور جو اس پر مداومت نہیں کرے گا قیامت کے دن نہ اس کے لیے نور ہو گا نہ دلیل اور نہ نجات اور قیامت کے دن وہ قارون، فرعون، هامان اور أبي بن خلف کے ساتھ ہو گا۔

دیگر ارکان کے مقابلے میں نماز کا ادا کرنا اکثر مسلمانوں پر فرض ہے، مجنون نباخ، اور حیض و نفاس میں بنتا اور توں کے علاوہ ترک نماز کا غدر کسی سے مسouع نہیں ہے، نمازی تو بہت ہیں لیکن اس کے احکام و مسائل سے اچھی طرح واقف کم ہیں جب کہ نماز کے احکام کا جاننا ہر بالغ مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اپنی نماز صحیح اور مکمل طور پر ادا کر سکے، کیوں کہ نماز جس کے شرائط ارکان وغیرہ پورے نہ کئے گئے ہوں وہ شریعت کی نظر میں معترض نہیں اچنال چہ نیپاک علیتگی نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ اچھی طرح سے نماز ادا نہیں کر رہے ہیں تو ان کے نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد فرمایا "ارجع فصل فبانک لم

تصلی" تو پھر جا اور نماز پڑھ تم نے تو (شرعاً) نماز پڑھی ہی نہیں، اسی طرح ایک موقع پر ادائے نماز کے بعد ایک صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا "یا فلاں الاتحسن صلاتک الایبظر المصلی اذا صلی کیف یصلی" (صحیح مسلم) اے فلاں اپنی نماز کو اچھی طرح کیوں نہیں ادا کرتا، نمازی ادائے نماز کے وقت کیوں نہیں سوچتے کہ وہ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔

قرآن و حدیث کے ان حکم اور واضح فرمودات کے پیش نظر نماز کی فرضیت اور اس کے اہم ترین عبادات ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے البتہ کیفیت ادا میں قدرے تنوع ہے یعنی نماز کے بعض افعال اور طریقے، نیز کچھ سنن و آداب کے بارے میں سنت رسول کے دائرے میں رہتے ہوئے صحابہ، کرام، تابعین عظام اور ائمہ مجتہدین داکا بر محدثین کا باہم اختلاف پایا جاتا ہے، اصل پرتفق رہتے ہوئے ہر ایک کو اصول و ضوابط کے مطابق اپنے طریقہ بائے نماز کی افضليت اور بہتری کے اظہار کا پورا حق ہے۔

لیکن عصر حاضر میں ایک ایسا گروہ معرض وجود میں آگیا ہے جن کے یہاں سنت کا ایک خود ساختہ معیار ہے کہ جو کام وہ خود کریں اسے سنت کا عنوان دیتے ہیں اور ہر اس کام کو خلاف سنت گردانے تے ہیں جو ان کی مزعومہ سنت کے موافق نہ ہو، چاہے اس پر جمہور اہل اسلام عمل پیرا ہوں اور احادیث رسول علی صاحبہ الصلة والسلام سے اس کی تائید و تصویب بھی ہوتی ہو۔

اس گروہ کے مذہبی انکار کا خلاصہ نماز کے چند اختلافی مسائل کو ہوادینا ہے یہ لوگ کم پڑھے تکھے مسلمانوں کو دروغاتے پھرتے ہیں کہ ان کی نماز میں سنت کے خلاف ہیں ان کا نماز پڑھنا اور نہ پڑھنا دوں برابر ہے، ان لوگوں کے اس روایت سے عموم اپنی نمازوں کے متعلق ذہنی انتشار میں بتا ہوتے جا رہے ہیں اور بعض تو اصل نماز ہی سے برگشت ہو گئے ہیں۔

اس صورت حال کے پیش نظر فتحہ احتاف کی کتابوں مثلاً بیری، شرح

مذیۃ المصلی، شرح نقایہ ملا علی قاری، شرح وقاری، بدایہ وغیرہ سے نماز کے اہم بالخصوص مختلف فیہ مسائل مرتب کر دئے گئے ہیں اور ہر مسئلہ کی دلیل قرآن و حدیث اور آثار صحابہ سے پیش کردی گئی ہے، یہ دلائل عام طور پر صحیح بخاری، صحیح مسلم، موطا مالک، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، شرح معانی آثار وغیرہ معروف و معتر کتب حدیث سے نقل کئے گئے ہیں، اور بیشتر احادیث کے مرتبہ اور درجہ کو بھی حضرات محدثین کے اصول و اقوال کی روشنی میں بیان کر دیا گیا ہے تاکہ کتاب کے مطالعہ کے دوران احادیث کے ثبوت و صحت کے سلسلے میں قاری کا ذہن مطمئن رہے اور ان لوگوں کے دام فریب میں نہ آئیں جو ہر اس حدیث کو جوان کے مزاعمد موقف کے خلاف ہو بلکہ تحقیق ضعیف کہہ دیا کرتے ہیں۔

اتشاء اللہ کتاب کے مطالعہ سے عام مسلمانوں کے ذہن میں جو شبہات پیدا کر دئے گئے ہیں وہ دور ہوں گے علاوہ ازیں ایک اہم ترین فائدہ یہ بھی ہو گا کہ ان دلائل سے واقع ہو جانے کے بعد یہ یقین مزید پختہ ہو جائے گا کہ ہماری نمازیں بھی پاک ﷺ کی سنت کے مطابق ہیں یقین کی اس پختگی سے نماز میں خشوع و خضوع کا اضافہ لازمی ہے اور خشوع و خضوع ہی نماز کی روح ہے۔

مسائل دلائل کے اخذ و فہم میں غلطی کے امکان و وقوع سے انکار نہیں اگر کوئی صاحب علم کسی غلطی کی صحیح طور پر نشان دہی کریں گے تو شکریہ کے ساتھ اس کی اصلاح کر لی جائے گی۔ خداۓ رحیم و کریم اپنے لطف و کرم سے جو لغز شیں ہوئی ہوں انھیں معاف فرمائے اور اپنے رسول پاک ﷺ کی سنت پر پچ دل سے عمل کی توفیق ارزانی فرمائے آئیں۔

حبيب الرحمن عظیمی

خادم التدریس دارالعلوم دیوبند

بسم اللہ الرحمن الرحيم

قیام:

مسئلہ (۱) نماز کا ارادہ کریں تو باوضوقبلہ رخ کھڑے ہو جائیں۔

(۱) قوموا لله قانتین۔ (سورۃ بقرۃ آیت ۲۳) اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ عاجزی کرتے ہوئے۔ (چوں کہ نماز سے باہر قیام ضروری نہیں کیا گیا ہے لہذا کھڑے ہونے کا یہ حکم نماز ہی سے متعلق ہے)

(۲) عن عمران بن حصین قال کانت بی بواسیر فسالت

رسول اللہ ﷺ عن الصلوة فقال: صل قائما، فان لم تستطع فقاعدا
فان لم تستطع فعلى جنب۔ (صحیح بخاری ارج ۵۰۰ و مسن احمد: ۳۲۲۰۳)

ترجمہ: حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر تھی میں نے رسول اللہ ﷺ سے نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو یہ کہ پڑھو اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر پہلو پر لیت کر پڑھو۔

مسئلہ (۲) قیام میں دونوں پر قبلہ رخ رہیں:

امام بخاری باب فضل استقبال القبلة میں لکھتے ہیں:

يستقبل باطرا ف رجلیه القبلة، قاله أبو حمید (السعادی) عن
النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔

ترجمہ: حضرت ابو حمید سعادی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھتے تھے۔

صف کی درستگی

مسئلہ (۲) بجماعت نماز میں بالکل سیدھے اس طرح حل کر کھڑے ہوں کہ ایک دوسرے کے بازو ملے ہوں درمیان میں کوئی خلا و فرج نہ رہے۔

(۱) عن نعمان بن بشیر قال: کان رسول اللہ ﷺ یسوئی صفو فناحتی کا نمائیسوئی بہا القداح - الحدیث. (صحیح مسلم: ۱۸۲)

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفووں کے سیدھے کرنے میں اس قدر اہتمام فرمات تھے گویا ان صفووں سے تیر سیدھے کئے جائیں گے۔

(۲) عن انس قال: قال رسول اللہ ﷺ: سووا صفو فکم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، وعند مسلم، من تمام الصلاة.

(صحیح بخاری: ۱۰۰۱، صحیح مسلم: ۱۸۲)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا صفووں کو سیدھی کرو کیوں کہ صفووں کا سیدھا کرنا اقتامت نماز میں سے ہے اور مسلم کی روایت میں ہے کہ نماز کی تحریک سے ہے۔

(۳) عن ابن عمر أن رسول اللہ ﷺ قال: أقيموا الصفوف وحاددوا بين المناكب وسدوا الخلل وليتوا بآيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفاً وصله الله ومن قطع صفاً قطعه الله۔ (من ابواب: امرے ۹، صحیح بن خزیم: المکمل)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا صفووں کو سیدھی کرو، کندھوں کو برابر کرو اور درمیان کی خالی جگہوں کو بند کرو اور اپنے بھائیوں کے باتھوں میں نرم ہو جاؤ (یعنی صفح

درست کرنے کے لیے اگر کوئی آگے پچھے کرے تو نرمی کے ساتھ آگے یا پچھے ہو جاؤ) اور صفووں میں شیطان کے لیے دراز نہ چھوڑو (بلکہ بالکل مل کر کھڑے ہو) جو صفووں کو ملائے اللہ تعالیٰ اس کو ملائیں گے اور جو صفووں کو کانے گا اللہ تعالیٰ اسے کاٹ دیں گے۔

(۴) انس بن مالک قال: أقيمت الصلاة فاقبل علينا رسول الله ﷺ بوجهه ، فقال: أقيموا صفو فكم وتراصُوا فياني اراك من وراء ظهري ، وفي رواية عنه وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. (صحیح بخاری ارج ۱۰۰)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان ہے کہ نماز کی تحریک ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے ہماری جانب متوجہ ہو کر فرمایا صفووں کو برابر کرو اور خوب مل کر کھڑے ہو بلکہ میں تمہیں پشت کی طرف سے بھی دیکھتا ہوں۔

حضرت انس رضی اللہ سے ایک دوسری روایت میں مروی ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے سے اور اپنے پیروں کو اپنے ساتھی کے پیروں سے ملا دیتا (یعنی ہم میں سے ہر ایک صاف کے درمیانی خلا کو پور کرنے میں اہتمام کرتا تھا) یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک اپنے قدم کو دوسرے کے قدم سے واقعی ملا دیتا تھا، چنانچہ حافظ ابن حجر اس جملہ کی مراد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں "المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وسد خلله"۔ (فتح الباری: ۳۵۲/۲)

امام بخاری کا مقصد اس باب سے صاف کی درستگی اور صاف کے دراز کو بند کرنے میں مبالغہ بتاتا ہے۔ اس کی تائید سن ابو داود کی اس روایت سے ہوتی ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان منقول ہے "زصوصاصفو فکم وقاربوا بینها و حاذوا بالاعناق" (ارج ۹) صفووں کو خوب ملا کر اور قریب ہو کر

کھڑے ہو اور باہم گروں کو برابر کرو، نیز سن ابواؤدہ میں حضرت نعمان بن بشیر کی روایت سے بھی تائید ہوتی ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں "فرأيَتِ الرَّجُلَ يلْزِقُ مِنْكَهَ بِمِنْكَهٍ صَاحِبَهُ وَرَكِبَتِهِ بِرَكِبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبَهِ" (ار ۹۷) میں نے دیکھا کہ ایک شخص دوسرے شخص کے کندھے سے اپنا کندھا گھٹھنے سے اپنا گھٹھنا اور ٹختنے سے اپنا ٹختہ ملا کر کھڑا ہو تاھل۔

اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ صافی اس طرح درست کرنا کہ گرد نیں گرد نوں سے، گھٹھنے گھٹنوں سے اور ٹختنے ٹخنوں سے ملے ہوئے ہوں ممکن ہی نہیں، اس لیے یہی کہا جائے گا کہ ان مذکورہ الفاظ سے مقصود صفائی کے احتیام کر کوئی آگے پیچھے نہ ہو۔ اور درمیانی کشادگی کو پر کرنے میں مبالغہ کرنے کو بیان کرتا ہے ان الفاظ کے حقیقی معانی مراد نہیں ہیں، لہذا صفوں کو درست کرنے کی سنت کے مطابق صحیح صورت یہی ہے کہ سب آپس میں کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے ہوں کہ درمیان میں خلانہ رہے اور نہ ہی کوئی صاف میں آگے پیچھے نکلا ہوا ہو باہم پیروں کو پیروں سے ملانے کی ضرورت نہیں کیوں کہ اس طرح ایک دوسرے کے قدم تو مل جاتے ہیں لیکن اپنی تالکیں چوڑی کرنے کی وجہ سے خود اپنی تالگوں کے درمیان غیر موزوں فرج اور ظلل پیدا ہو جاتا ہے جو رسول خدا ﷺ کی تعلیم تحسین صلاۃ کے خلاف ہے۔ پھر اس میں بلاوجہ کا تکلف کرنا پرستا ہے اور رکوع و سجدة میں بھی دشواری ہوتی ہے نیز صفوں کی درستگی کا اہتمام تو صرف نماز کے شروع کرتے وقت مطلوب ہے اور تالکیں چوڑی کر کے قدم سے قدم ملانے کی ضرورت ہر رکعت میں پیش آتی ہے جو خلاف سنت ہے۔ فقد بر مسئلہ (۲) پہلی صفائی کے بعد دوسری صفائی کریں۔

(۱) عن جابر بن سمرة (مرفوعا) ثم خرج علينا فقال لا تصفون، كماتصف الملائكة عند ربها، فقلنا يا رسول الله: وكيف

تصف الملائكة عند ربها قال يعمون الصوف الاولى ويترافقون في الصوف . (صحیح مسلم: ۱۸۱)

ترجمہ: پھر دوبارہ رسول خدا ﷺ کی تشریف آوری ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا تم لوگ اس طرح صفائی کیوں نہیں کرتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس صفائی کرتے ہیں، ہم نے عرض کیا حضور! فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح صفائی کرتے ہیں؟ فرمایا اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صاف میں باہم مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔

(۲) عن انس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر . (سن ابواؤد: ۹۸، وسناده حسن)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی صفائی کو پورا کر دیکھ راس سے ملی صفائی کو پورا کر دیکھ جو کمی ہو وہ پچھلی صفائی میں ہو۔

نیت:

مسئلہ (۵) نماز شروع کرتے وقت دل میں نیت کر لیں کہ فلاں نماز پڑھ رہا ہوں۔

(۱) وَمَا أَمْرُوا إِلَيْهِ بِمَا يَعْبُدُونَ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔
ترجمہ: اور انھیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادات اخلاص کے ساتھ کریں خیف ہو کر۔

(۲) إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لَأْمَرْءٌ مَانُوِيٌّ - الحديث .
(بخاری: ۴۰، مسلم: ۱۳۰، روایت: ۲۰)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو

دیکھا کہ آپ ﷺ نے تکبیر کی تو اپنے ہاتھ کے انگوٹھوں کو کانوں کے برابر کر دیا۔
مسئلہ (۷) سردی کے موسم میں اگر ہاتھ چادر وغیرہ کے اندر ہوں تو ضروری نہیں ہے۔

مسئلہ (۸) نیت کر لینے کے بعد دو توں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہوئے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہیں۔

(۱) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (سورہ علی، پ ۳۰)

ترجمہ: اور اس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔

(۲) عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكثراً. (مسلم: ۱۹۰۷)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز قائم کرنے کا ارادہ کرو تو مکمل طور پر وضو کرو پھر قبلہ رخ ہو جاؤ اور تکبیر کو۔

(۳) عن مالك بن الحويرث أن رسول الله ﷺ كان إذا كبر رفع يديه، حتى يحاذى بهما أذنيه. وفي رواية "حتى يحاذى بهما قروع أذنيه." (مسلم: ۱۹۸۱)

ترجمہ: حضرت مالک بن الحويرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو اٹھاتے ہیاں تک کہ انھیں کانوں کے برابر کر دیتے، اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: ہیاں تک کہ ہاتھوں کو کان کے اوپری حصہ کے مقابل کر دیتے۔

(۴) عن أنس قال رأيت رسول الله ﷺ يكبر، فحاذى ببابه عليه أذنيه - الحديث "آخر جه الحاكم وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيدين ولا اعرف له علة ولم يخرجاه". (المصدر: ۲۲۲۱)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ نے تکبیر کی تو اپنے ہاتھ کے انگوٹھوں کو کانوں کے برابر کر دیا۔
مسئلہ (۷) سردی کے موسم میں اگر ہاتھ چادر وغیرہ کے اندر ہوں تو سینے یا انگوٹھوں تک بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں۔

(۱) عن وائل بن حجر قال: رأيت النبي ﷺ حين افتتح الصلاة رفع يديه حال أذنيه ثم اتيتهم فرأيهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم برائس واكسية. (شن ابو رواش: ۱۰۵، وشن کبری تحقیق: ۲۸۰۲)

حضرت واکل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ ﷺ نے نماز شروع فرمائی تو ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھایا، پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرات صحابہ نماز شروع کرتے وقت ہاتھوں کو سینے تک اٹھاتے ہیں اور ان کے بدن پر ہیتے اور چادریں تھیں۔

فائدہ: حضرت واکل کا دوسرا بار سردی کے موسم میں آنا اس روایت سے ظاہر ہے جس میں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ "تم جنت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جعل الشياط تحرك أيديهم تحت الشياط" (شن ابو رواش: ۱۰۵، و بمعناه: ۱۰۶)

ترجمہ: پھر دوبارہ میں سخت سردی کے موسم میں آیا تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ان پر موئی مونے کپڑے ہیں اور انھیں کپڑوں کے نیچے ان کے ہاتھ (رفیع یہیں کے لیے) حرکت کر رہے تھے۔

مسئلہ (۸) ہاتھوں کو اٹھاتے وقت انگلیوں کو محلی اور کشاڑہ نیز ہتھیں کو قبلہ رخ رکھیں۔

(۱) عن أبي هريرة كان رسول الله ﷺ إذا كبر للصلوة نشر أصابعه . (جامع ترمذ: ۱۸۷۵، وصحیح ابن حبان: ۱۹۵۶)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ جب نماز کے لیے بکیر کہتے تو انگلیوں کو کشادہ اور کھلی رکھتے تھے۔

(۲) عن ابن عمر (مرفوعا) إذا استفتح أحدكم فليرفع يديه وليستقبل بباطنهما القبلة؛ فإن الله أمامه . (رواہ الطبرانی فی الأوسط، مجمع الزوائد ۱۰۲۲) وفيه عمیر بن عمران وهو ضعيف.

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہاں کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز شروع کرے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور ہنسیلیوں کو قبلہ رخ رکھ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت اس کے آگے ہوتی ہے۔

مسئلہ (۹) بکیر تحریمہ سے فارغ ہو کر دائیں ہاتھ سے باسیں پہونچ کو پکڑ کر ناف سے ذرا نیچے رکھ لیں، ہاتھ باندھنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے حلقة بن کر باسیں پہونچ کو پکڑ لیں اور باقی تین انگلیوں کو باسیں ہاتھ کی پشت پر چھلی چھوڑ دیں۔

(۱) عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم: لا أعلم إلا ينمى ذلك إلى النبي ﷺ . (صحیح بخاری: ۱۰۲۱)

ترجمہ: حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کا یہاں ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں وہ اپنے دائیں ہاتھ کو باسیں پہونچ پر رکھیں۔

(۲) عن وائل بن حجر أنه رأى النبي ﷺ رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه

اليسرى والرسخ والساعده . (سنن احمد: وسنن الترمذ: ۱۸۳۱، وسنن ابو داود: ۱۰۵۱، واسناده صحیح آثار السنن: ۶۲۱)

ترجمہ: حضرت واکل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول ﷺ کو دیکھا کہ جب نماز شروع کی تو ہاتھوں کو بلند کیا اور بکیر کی بھر چادر پیٹھ لی اور دائیں ہاتھ کو باسیں ہٹھلی کی پشت اور پہونچے دکانی پر رکھا۔

(۳) عن علقمہ بن وائل بن حجر عن أبيه قال: رأيَت النبِيَّ ﷺ يضع يمينه على شماله تحت السرة . (مصنف ابن أبي شيبة طبع کراچی: ۳۹۰/۱) قال الحافظ قاسم بن قطلوبيغا في تخریج أحاديث الاختیار شرح المختار ، هذا سند جيد، وقال العلامة محمد أبو الطیب المدنی في شرح الترمذی ، هذا حديث قوى من حيث السند و قال المحقق عابد السندي في طواعي الأنوار: رجاله ثقات .

ترجمہ: علقمہ بن واکل اپنے والد یعنی واکل بن حجر سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے والد نے کہا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ نماز میں آپ اپنے دائیں ہاتھ کو باسیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھ کر ہوئے ہیں۔

(۴) عن أنس قال: ثلاثة من أخلاق النبوة تعجيل الإفطار وتاخير السحور وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة تحت السرة . (ابو ہراثی: ۳۲۲، وابن حزم: ۳۵۳)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین باتیں نبوت کے اخلاق دعادات میں سے ہیں (۱) اظفار میں جلدی کرنا۔ (۲) سحری دیر سے کھانا۔ (۳) اور نماز میں دائیں ہاتھ کو باسیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا۔

(۵) عن عقبة بن صہیبان أنه سمع علياً يقول في قول الله غزویل: "فصل لربك وأنحر" قال وضع اليمنى على اليسرى تحت

السرة۔ (المتہجد ابن عبد البر: ۲۸۰)

ترجمہ: عقبہ بن حبیبان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد "فصل لربک وانحر" کی تفسیر میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے۔

(۶) عن أبي وائل عن أبي هريرة رضي الله عنه أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة۔ (سن أبو داود سنن الاعرابي: ۲۸۰، والخليل ابن حزم: ۳۰۳)

ترجمہ: ابو واکل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نماز میں ہتھیلی کو ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھنا ہے۔

(۷) عن الحجاج بن حسان قال: سمعت أبا مجلز أو سائله قال: قلت: كيف أضع؟ قال: يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف شماله ويجعلهما أسفل من السرة۔ (مصنف ابن أبي شيبة: ۳۹۱، واسناده صحیح)

ترجمہ: حاج بن حسان کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر سے، یا ان سے پوچھا کہ نماز میں ہاتھ کس طرح رکھوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ دائیں ہتھیلی کے اندر وہی حصہ کو بائیں ہتھیلی کے اوپری حصہ پر ناف سے نیچے رکھے۔

(۸) عن ابراهیم قال يضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة۔ (مصنف ابن أبي شيبة: ۱۹۰، واسناده حسن)

ترجمہ: مشہور فقیر و محدث ابراہیم تخری نے کہا کہ نمازی اپنادلیاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے۔

ضروری وضاحت:

ناف سے نیچے یا ناف سے اوپر میں ہاتھ باندھنے کے بارے میں مرفوع

روایتیں درجہ دوم و سوم کی ہیں اور ان میں اکثر ضعیف ہیں البتہ نیچے باندھنے کی روایتیں ہی نہیں وغیرہ پر باندھنے کی روایتوں سے اصول محدثین و فقہاء کے لحاظے قوی اور راجح ہیں۔

مسئلہ (۱۰) تکمیر تحریکہ اور ہاتھوں کو باندھنے کے بعد دعائے استفتح یعنی شاپرھیں۔

(۱) عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبarak اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك۔ (كتاب الدعاء الطبراني: ۳۳۲، والمعجم الأوسط قال الحافظ الهيثمي ورجاله موثقون، صحيح الزوائد: ۲/۲۷، وقال العلامة البیموی واسناده جيد، آثار السنن: ۲۱)

(۲) عن أبي سعيد أن النبي ﷺ كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبarak اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك۔ (سن نسائي: ۱/۱۳۳)

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نی
عَلَّمَهُ جب نماز شروع فرماتے تو سبحانك اللهم اخْلَقْتَهُ.

(۳) عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبarak اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك۔ (سن أبو داود: ۱/۱۱۳، ومسند رک حاکم: ۱/۲۳۵، وقال صحيح على شرط الشیخین)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول خدا عَلَّمَهُ جب نماز شروع فرماتے تو سبحانك اللهم اخْلَقْتَهُ.

(۴) عن عبدة وهو ابن لبابة أن عمر بن الخطاب كان يجهز بهلواء الكلمات، يقول سبحانك اللهم اخ. (صحیح مسلم: ۱/۷۲، وهو مرسلاً لأن عبدة لم يسمع من عمر)

ترجمہ: ابن لبیب کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ (بغرض تعلیم کبھی کبھی) ان کلمات یعنی سبحانک اللہم اخ گو بلند آواز سے پڑھ دیا کرتے تھے۔ وذکرہ ابن تیمیۃ الجد فی المتنقی عن عمر وابی بکر الصدیق وعثمان وابن مسعود، ثم قال واختیار هولاء یعنی الصحابة الذين ذکرهم لهذا الاستفتح وجهرا عمر به أحياناً بمحض من الصحابة ليتعلمه الناس مع أن السنة إخفاذه يدل على أنه الأفضل وأنه الذي كان النبي ﷺ يدوم عليه غالباً وأن استفتح بamarوah على وأبوهريرة فحسن لصحة الروایة. (تلل الاواد طار: ۲۱۹ ر: ۲)

ترجمہ: ابن تیمیہ کے دادا ابو البرکات عبدالسلام بن عبد اللہ المعروف بابن تیمیہ اپنی مشہور کتاب "المتنقی" میں حضرت عمر فاروق، ابو بکر صدیق، عثمان غنی اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے شاکی روایتوں کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ان اکابر صحابہ کا دعاۓ استفتح کے لیے سبحانک اللہم اخ کا اختیار کرنا نیز دعاۓ استفتح کو آہستہ پڑھنے کے منسون ہونے کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا لوگوں کو سخانے کی غرض سے کبھی کبھی اسے بلند آواز سے پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ سبحانک اللہم اخ کا پڑھنا اسی افضل ہے اور آخر حضرت ﷺ اکثر نمازوں میں اسی پر مداومت فرماتے تھے، پھر بھی اگر کوئی شخص اس کے بجائے وہ دعا پڑھے جو حضرت علی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مردی ہے تو بھی خوب ہے، کیوں کہ یہ دعا میں بھی ثابت ہیں۔

مسئلہ (۱) اگر لامت کرہے ہوں یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو شا سے فارغ ہو جانے پر آہستہ آواز میں اعوذ بالله اور بسم اللہ پڑھیں۔

(۱) فَإِذَا قرأت القرآن فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِن الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. (تلل ار: ۱۳۲)

ترجمہ: جب تو قرآن پڑھے تو (پہلے) اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب

کر شیطان مردود سے۔

(۲) عن أنس قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان فلم اسمع أحداً منهم يقرأ باسم الله الرحمن الرحيم. (صحیح سلم: ۲۷۲۱)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ نماز پڑھی میں نے ان حضرات میں سے کسی سے بسم اللہ الرحمن الرحيم پڑھتے نہیں سن۔

(۳) عن أنس قال صليت خلف النبي ﷺ وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. (نسائي: ۱۳۹۰ و مسندة احمد: ۱۳۲۳، و طحاوي: ۱۳۹۱، باساناد على شرط صحيح)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کی اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے بھی نماز پڑھی یہ سب حضرات نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔

(۴) عن أنس أن رسول الله ﷺ كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم وأبوبكر وعمر. (رواہ الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله مؤثقون). (صحیح الزوائد: ۱۰۸)

(۵) عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ كان يقول قبل القراءة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. (مسنف عبد الرزاق: ۸۲۰)

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ قرأت سے پہلے اعوذ بالله پڑھتے تھے۔

(۶) عن الاسود بن يزيد قال: رأيت عمر بن الخطاب حين افتتح الصلاة كبر، ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك وبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يتبعه. (رواوه الدارقطني: ۳۰۰، رواه ابن حجر في مصنف ابن أبي شيبة: ۲۳۷)

ترجمہ: مشہور تابعی اسود بن یزید نے حنفی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جب نماز شروع کرتے تو بکیر کہتے پھر سبحان اللہم اخ پڑھتے اس کے بعد اعود باللہ کہتے۔

(۷) عن أبي وائل قال: كان على وابن مسعود لا يجهزان بسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بالتأمين. رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو سعد البقال وهو ثقة مدلس، (مجمع الزوائد: ۱۰۸/۲)

ترجمہ: ابو واکل کا بیان ہے کہ حضرت علی مرتضی اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بسم اللہ اعوذ باللہ اور آمین کو بلند آواز سے نہیں کہتے تھے۔

(۸) عن أبي وائل قال كانوا يسرعون التعود والبسملة في الصلاة (رواہ سعید بن منصور واسناده صحيح)

ترجمہ: ابو واکل کہتے کہ لوگ (یعنی صحابہ وتابعین) (نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو آہستہ پڑھا کرتے تھے۔

تنبیہ: بسم اللہ کو جھر (بلند آواز) سے پڑھنے کے بارے میں جو روایتیں نقل کی جاتی ہیں، وہ زیادہ تر ضعیف وغیر مقبول ہیں پھر بھی بسم اللہ کو جھر کے ساتھ پڑھنے والوں پر تنکیر مناسب نہیں ہے۔

قرأت:

مسئلہ: (۱۲) تعود و تسلیم کے بعد فرض کی پہلی دور کعنیوں اور بقیہ

سب نمازوں کی کل رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت یا کم از کم تین جھوٹی یا ایک بڑی آیت پڑھیں۔

(۱) فَاقْرُأْ أَمَا تَسْرُّ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھو قرآن میں سے جس قدر میسر ہو۔

(۲) عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: لاصلاة الابقاء، الحديث. (صحیح مسلم: ۱۷۰)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا علیہ السلام نے فرمایا کہ بغیر قرأت کے کوئی نماز نہیں۔

(۳) عن أبي سعيد قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. (سنن ابو داود: ۱۱۸، مسنون احمد وابي عبيدة وابن حبان) قال ابن سيد الناس اسناده صحيح ورجا له ثقات وقال الحافظ في التلخيص اسناده صحيح وقال في الدرية صحيحه ابن حبان، آثار السنن: ۱۷۳)

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں (منجانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) حکم دیا گیا ہے کہ ہم سورۃ فاتحہ اور قرآن کا جو حصہ میسر ہو پڑھیں۔

(۴) عن عبادة بن صامت أخبره أن رسول الله ﷺ قال لاصلاة لمن لم يقرأ بام القرآن فصاعدا. (صحیح مسلم: ۱۲۹، سنن ابو داود: ۱۱۹، مصنف عبد الرزاق: ۹۳۲، مسنون احمد: ۵۲۲)

(۵) حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس کی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ قرآن کا کچھ مزید حصہ نہیں پڑھا۔

(۶) عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي ﷺ يقرأ في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورۃ

وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحِيَانًا وَيَقْرَأُ فِي الرُّكُعَيْنِ الْآخِرَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .
(صحیح بخاری: اہر ۱۰، صحیح مسلم: ۱۸۵، ۱۸۶) وَاللَّفْظُ لَهُ .

مسئلہ (۱۳) فرض کی آخری رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بجائے تسبیح پڑھ لیں یا خاموش رہیں تب بھی نماز ہو جائے گی۔

(۱) عن عبید اللہ بن أبي رافع قال: كَانَ يَعْنِي عَلَيَا يَقْرَأُ فِي
الْأُولَيْنِ مِنَ الظَّهَرِ وَالْعَصْرِ بِأَمْ القُرْآنِ وَسُورَةً وَلَا يَقْرَأُ فِي الْآخِرَيْنِ .

(مصنف ابن عبد الرزاق: ۴۰۰/۲)

ترجمہ: عبید اللہ بن ابی رافع کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ظہراً وَ عصر کی پہلی دور کعتوں میں فاتحہ اور سورۃ پڑھتے تھے اور آخری دور کعتوں میں قرات نہیں کرتے تھے۔

(۲) عن أبي اسحاق عن علي و عبد الله أنهما قالا: اقرأ في
الأولين و سبّح في الآخرين . (مصنف ابن ابی شيبة: ۳۰۸۱، طبع کراچی)

ترجمہ: ابو اسحاق حضرت علی اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ پہلی دور کعتوں میں قرات کرو اور آخری رکعتوں میں تسبیح پڑھو۔

(۳) عن إبراهيم قال: اقرأ في الأولين بفاتحة الكتاب و سورة .
ترجمہ: ابراہیم تھجی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی دور کعتوں میں فاتحہ اور سورۃ پڑھو اور آخری رکعتوں میں تسبیح پڑھو۔

(۴) عن علقة بن قيس أن عبد الله بن مسعود كان لا يقرأ
خلف الإمام فيما يجهز فيه وفيما يختلط فيه في الأولين ولا في
الآخرين ، وإذا صلّى وحده قرأ في الأولين بفاتحة الكتاب و سورة
ولم يقرأ في الآخرين شيئاً . (وطالام محمد: ۱۰۰)

ترجمہ: علقہ بن قیس تھجی کا بیان ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ امام کے پیچھے جہری و سری کی نماز میں قرات نہیں کرتے تھے نہ پہلی دور کعتوں میں اور نہ پچھلی دور کعتوں میں اور جب ایکی نماز پڑھتے تو پہلی دور کعتوں میں فاتحہ اور کوئی سورۃ پڑھتے تھے اور پچھلی دور کعتوں میں پچھلی نہیں پڑھتے تھے۔

مسئلہ (۱۴) اور اگر امام کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں تو شناپڑھ کر خاموش ہو جائیں خود قرات نہ کریں بلکہ امام کی قرات کی جانب خاموشی کے ساتھ دھیان لگائے رکھیں۔

(۲) وَإِذَا فِرِيَ الْقُرْآنَ فَاسْتَجِمُوا لَهُ وَانصِتُوا لِعَلَمْكُمْ تُرْحَمُونَ
(الاعراف: پ ۹)

ترجمہ: اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائے رہو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

فائدة ۵: امام احمد بن خبل امام الشفیر محمد بن حسن العقاش، امام جصاص رازی، حافظ ابن عبد البر، حافظ ابن تیمیہ وغیرہ ائمۃ حدیث و تفسیر وفق فرماتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت نماز میں قرات کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔

(۲) عن أبي موسى الأشعري قال: إن رسول الله ﷺ خطبنا فيئن لاستنا وعلمنا صلتنا فقال: إذا صلّيتم فاقيموا صفوكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا وإذا قال، غير المغضوب عليهم والضالّين، فقولوا: آمين ، الحديث برواية الجرير عن سليمان عن قتادة . (صحیح مسلم: ۱۸۳۷، و مسنون احمد: ۳۱۵۰، و ابن ماجہ: ۴۱، و دارقطنی: ۳۳۰۰)

ترجمہ: حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول خدا ﷺ

فانتهی الناس عن القراءة مع رسول الله ، فيما جهر فيه رسول الله ﷺ بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم . (مولانا مکر ۳۶۹ و رواه الترمذی) وقال هذا حديث حسن ، وقال الحافظ المغلطانی قال الترمذی هذا حديث حسن فی أكثر النسخ و فی بعضها صحيح ، وقال الحافظ أبو على طوسی فی كتاب الأحكام من تالیفه هذا حديث حسن وصححه الحافظ أبو بکر الخطیب فی كتابه المدرج ، الاعلام للمغلطانی (قی ۸۲، ۳) وصححه أيضاً أبو حاتم الرازی وابن کثیر فی تفسیر القرآن (۲۸۷، ۲) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک جھری نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا کیا اس وقت تم میں سے کسی نے میرے پیچھے قرأت کی ہے ایک صاحب بولے تھا میں نے یا رسول اللہ ! تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جبھی تو میں جی میں کہہ رہا تھا میرے ساتھ قرآن میں منازعت کیوں ہو رہی ہے ؟ اس کے بعد جھری نمازوں میں صحابہ کرام نے آرے کے پیچھے قرأت ترک کر دی۔

(اس حدیث پاک پر فتنی بحث کے لیے مندرجہ متعلق المنشا کر: ۱۴۲، ۲۵۸-۲۸۵) کا مطالعہ کیجئے۔

نوٹ: اس مسئلہ کی تفصیلات کے لیے دیکھئے ہماری کتاب "امام کے پیچھے مقتدی کی قرأت کا حکم۔"

مسئلہ (۱۵) جب امام سورۂ غاتحہ کی قرأت کرتے وقت "ولا الصالین" پڑھوئے تو امام اور مقتدی سب آہستہ آواز سے "آمین" کہیں۔

(۱) عن أبي هريرة أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال: إذا قال الإمام: "غير المغضوب عليهم ولا الصالين" فتقولوا: "آمين" فإله من وافق قوله قول الملا نكمة غفرلة ما تقدم من ذنبه۔ (صحیح البخاری)

نے ہمیں خطاب فرمایا اور ہمارے واسطے دینی طریقے کو بیان فرمایا اور ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا اور آپ نے اس سلسلے میں فرمایا کہ جب نماز پڑھنے لگو تو اپنی صفوں کو درست کرو پھر تم میں سے ایک تمہاری امامت کرائے وہ جب تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو اور وہ جب قرأت کرے تو تم خاموش رہو اور جب وہ "غير المغضوب عليهم ولا الصالين" کہے تو تم آمین کہو۔

(۳) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر، فكبّروا إذا قرأ فأنصتوا، الحديث (نائل: ارج ۱، ابن ماج ۷۱۱، مسند احمد ۲۷۲۷، شریح معانی الآثار ۱: ۱۳۹، مصنف ابن أبي شيبة: ۱: ۲۷۷، وصححة امام مسلم وآخرون)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا امام تو اسی لیے بنا یا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، لہذا جب امام تکبیر کہے تو اس کے بعد تکبیر کہو اور جب وہ قرأت کرے تو تم لوگ خاموش رہو۔

(۴) عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: من كان له إمام فقرأه الإمام له قراءة، (رواہ احمد بن مسیع فی مسندہ و قال الحافظ البوصیری فی الاتحاف: ۳۲۵، ۲۳) صحیح علی شرعاً (تحفیظ)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کی اقتدا کی تو امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت ہے، یعنی مقتدی کو الگ سے قرأت کی ضرورت نہیں امام کی قرأت اس کے حق میں بھی کافی ہے۔

(۵) عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ انصرف من صلاة جهرة فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا، فقال رجل: نعم أنا يارسول الله ! فقال رسول الله ﷺ: أقول مالي نماز عنى القراءة: ،

فُنس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے موافق ہو جائے گا اس کے لئے
گناہ معاف کر دئے جاتے ہیں۔

ضروری تنبیہ: ان مذکورہ احادیث سے یہی علوم ہوتا ہے امام بلند آواز سے آمین نہیں کہتا کیوں کہ اگر وہ بلند آواز سے آمین کہتا تو آنحضرت ﷺ مقتدیوں کے آمین کرنے کو امام کے ولا الصالین کرنے متعلق نہ فرماتے۔

(٤) عن أبي هريرة بن رسول الله صلى الله عليه قال: إذا أمن الإمام فأقروا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (زواجه الجماعة).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام جب آمین کہے تو تم لوگ آمین کہو کیوں کہ جس شخص کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے موافق ہو جائے گا اسکے اگلے گناہ معاف کردئے جاتے ہیں۔

وضاحت: اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان "اذا آمن الامام" کو جمہور علماء نے مجاز پر محمول کیا ہے تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد "إذا قال الإمام والضالين" میں باہم موافق ہو جائے پذان پر حافظ ابن حجر فتح الباری شرح بخاری میں لکھتے ہیں۔ "قالوا فالجمع بین الرؤاسين يقتضي حمل قوله اذا آمن على المحادی" (۳۳۵/۲) المجاد

ترجمہ: علماء کہتے ہیں کہ حدیث "إذا قال الإمام ولا الصالِّينَ" اور حدیث "إذا أمن الإمام" میں جمع و تطبیق کا تقاضا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد "إذا أمن الإمام" کو مجاز پر محمول کیا جائے۔ "فَنَذَّرْ
وَلَا تَكُنْ مَعَ الْغَافِلِينَ" ۔

(٥) عن وائل بن حجر أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ مُحَمَّدَ، فَلَمَّا بَلَغَ "غَيْرَ

اول صفحہ مسلم (۱۷۲)

ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المام جب ”غیر المقصوب عليهم ولا الضالین“ کے تو تم سب آمین کہو کیوں کہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو جائے گا اس کے لگلے گناہ معاف کردئے جاتے ہیں۔

(٢) عن أبي هريرة قال - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمونا يقول : لا تبادروا الإمام . إذا كبر فكروا وإذا قال ولا الصالين فقولوا : آمين وإذا رفع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد . ((صحح مسلم ١٤٤٧))

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں (طریقہ نماز) سکھاتے ہوئے فرماتے تھے امام سے سبقت نہ کرو امام جب تکیہ کہ تو اسکے بعد تکیہ کرو اور امام جب "لا الصالین" کہے تو تم ب آمین کرو اور وہ جب رکوع میں جائے تو اس کے بعد رکوع میں جاؤ اور وہ جب سمع اللہ لمن حمدہ کے تو تم ب اللہم، بنا لک الحمد کرو۔

(٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام "غير المغضوب عليهم ولا الصالين" فقولوا: آمين، وإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه،،، (من أحد ٢٣٣٢، سنن نافع ١٦٣، سنن دارمي ٣١٣، طبع كرايي - صحح ابن حزم بـ ٢٨٩٢ وساواه صحح أرجون)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کا بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام جب "غیر المقصوب عليهم ولا الصالین" کے قوم لوگ آمین کبو فرشتے کبھی آمین کہتے ہیں اور امام بھی آمین کہتا ہے۔ تو جس

المغضوب عليهم ولا الصالين قال: آمين وأخفى بها صوته، الحديث
(شنون زندگی امر ۱۳۴، منداد مر ۳۱۶، مندابود امداد طلبائی: ۱۳۸۷، سنوار قطبی: ۳۳۲۰/۱، مسدر ک حاکم ۲۲۲۱، و قال هذا الحديث صحيح على شرطهما والفراء الذهبي)

ترجمہ: حضرت ابواللک بن جعفر رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ انہوں نے اللہ
کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم "غیر المغضوب عليهم ولا الصالین" پر پنج تو آپ ﷺ نے آمين کہا
اور اس میں اپنی آواز کو پست کیا۔

(۶) عن أبي وائل قال: كان عمر و علي لا يجهرون ان بسم الله
الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بالتأمين. (شرح معانی الآثار: ۱۳۰۰/۱، ذكر المأذن
التركماني في الجواهر الفتحي: ۲۸۸۲)

ترجمہ: ابواللک بن جعفر سے ہے کہ حضرت عمر فاروق اور علی مرتضیٰ رضی اللہ
عنہما، اسم اللہ، اعوذ بالله اور آمین میں آواز بلند نہیں کرتے تھے۔

(۷) عن علقمة والأسود كليهما عن ابن مسعود قال يخفى الإمام
ثلاثة التعوذ، وبسم الله الرحمن الرحيم، وآمين. (ابن حزم: ۲۰۶۲)

ترجمہ: علقہ اور اسود دونوں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے
نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا امام تین چیزوں اعوذ بالله، بسم اللہ
اور آمین کو آہستہ کئے گا۔

رکوع:

حسنہ (۱۶) قرأت سے فارغ ہو جائیں تو تکبیر کہتے ہوئے رکوع
میں جائیں۔

عن ابی هریرۃ قال کان رسول اللہ ﷺ إذا قام إلى الصلاة

یکر حین یقوم، ثم یکبر حین یبرک، الحديث. (صحیح بخاری: امر ۱۰۶۹ و صحیح مسلم: امر ۱۹۹)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کا رادہ کرے تو کھڑے ہونے کے وقت تکبیر کہتے
اور پھر رکوع میں جانے کے وقت تکبیر کہتے تھے۔

حسنہ (۱۷) رکوع میں اپنے اوپر کے دھڑکوں حد تک جھکا جائیں کہ
گردان اور پینچھے تقریباً ایک سطح پر آجائیں۔

(۱) عن عائشة قالت کان رسول اللہ ﷺ يستفتح الصلاة
بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين و كان إذا ركع لم يشخص
رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. (صحیح مسلم امر ۱۹۳)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
نماز کو تکبیر سے اور قرأت کو الحمد لله رب العالمین سے شروع فرماتے تھے
اور جب رکوع میں جاتے تھے تو سر مبارک کو زبانہ کرتے تھے اور نہ نیچا بلکہ ان
دونوں کے درمیان میں رکھتے تھے۔

(۲) عن ابن عباس قال: كان رسول اللہ ﷺ إذا ركع استوى،
فلوصب على ظهره ماء لاستقر. (صحیح الزوائد: ۲۳۰۲) بحوالہ طبرانی فی الکیر
وابو عیلی و عن ابی بزید الاسلمی بحوالہ طبرانی فی الکیر والارسط وقال رجالہما موثقون)
ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو پشت مبارک کو اس طرح ہموار کرتے کہ اگر آپ ﷺ
کی پشت مبارک پر پائی گرایا جاتا تو وہ خبیر ہوتا۔

حسنہ (۱۸) رکوع میں پاؤں سیدھے رکھیں ان میں خم نہ ہونا چاہئے اور
دونوں باٹھ گھنٹوں پر اس طرح رکھیں کہ ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ ہوں اور بازو
سیدھے تھے ہوئے پہلو سے دور رہیں۔

(۱) عن أنس قال: قال لي يعني النبي صلى الله عليه وسلم:
بابتي! إذا ركعت فضع كفيك على ركبتك وفرج بين أصابعك
وارفع يديك عن جنبك. (نصب الرأي: ۲۲، ۳) وصحح ابن حبان: ۲۷۲۳، وعن
ابن عمر في حدث مولى وصنف عبد الرزاق: ۱۵۱/۲)

ترجمہ: خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب رکوع کرو تو دونوں ہاتھ گھنٹوں پر رکھو اور انگلوں
کے درمیان کشادگی رکھو اور ہاتھوں کو پہلو سے دور رکھو۔

(۲) عن أبي خمید قال: إن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رکع، فوضع
يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتحاهما عن جنبيه.
(سنن ترمذی: ۶۰/۱) وقال هذا حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم الخ.

ترجمہ: حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے رکوع کیا تو باقصوں کاپنے گھنٹوں پر اس طرح رکھا کہ گویا غمیں پکڑے ہوئے
ہیں اور بازوں کو تھان کرائے پہلوؤں سے دور رکھا۔

صلی اللہ علیہ وسلم (۱۹) رکوع میں کم از کم اتنی دیر کیس کہ اطمینان سے تم
مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا جاسکے۔

(۱) عن ابن مسعود ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال: إذا رکع أحدكم فقال
في رکوعه: سبحان ربی العظیم ثلاث مرات، فقد تم رکوعه وذلك
أدناه وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربی الأعلى ثلاث مرات،
فقد تم سجوده وذلك أدناه. (سنن ترمذی: ۶۰)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے جب رکوع کیا اور اپنے رکوع میں تم بار
”سبحان ربی العظیم“ پڑھا تو اس کا رکوع پورا ہو گیا اور تم بار کی تعداد کمال کا

اوٹی درج ہے، اور جب سجدہ کیا اور سجدہ میں ”سبحان ربی الأعلى“ تم بار
پڑھا تو اس کا سجدہ مکمل ہو گیا اور یہ کمال کا ادنی درج ہے۔

(۲) عن أبي بكررة أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان يسبّح في رکوعه
”سبحان ربی العظیم“ ثلاثة وفي سجوده ”سبحان ربی الأعلى“ ثلاثة.
(رواہ البزار والطبراني، السنده وحسن آثار السنن: ۱۱۳)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں
تم بار سبحان ربی العظیم کہتے تھے اور اپنے سجدے میں تم بار ”سبحان
ربی الأعلى“ کہتے تھے۔

صلی اللہ علیہ وسلم (۲۰) پھر رکوع سے اکر رکع سیدھے کھڑے ہو جائیں کہ جسم
میں کوئی خم باقی نہ رہے۔

(۱) عن أبي هريرة أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد، فدخل رجل
فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، فرداً عليه النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال: ارجع،
فصل فإنك لم تصل، فصل ثم جاء فسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، فقال: ارجع
فصل فإنك لم تصل ثلاثة، فقال: والذى بعثك بالحق ما أحسن غيره
فعلمته فقال: إذا قمت إلى الصلوة فكثير ثم اقرأ ما تيسر معلك من القرآن
لم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعدل قائما، ثم اسجد حتى
تطمئن ساجدا، الحديث. (صحیح بخاری: ۱۰۹۱، سنن ابو داود: ۱۴۲)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد میں تشریف لائے آپ کے بعد ایک شخص سجدہ میں داخل ہوا اور نماز پڑھ کر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر سلام کیا، آپ نے اس کے سلام کا بواب دیا
اور فرمایا کہ واپس جاؤ کہ پھرست نماز پڑھو تم نے تو نماز پڑھی ہی نہیں، اس شخص نے
پھرست نماز پڑھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر سلام کیا آپ نے پھر

فرمایا جا کر نماز پڑھو تم نے تو نماز پڑھی ہی نہیں تین بار آپ نے سے واپس لوٹا تو اس شخص نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے میں اس سے اچھی نماز پڑھنی نہیں جانتا آپ مجھے سکھادیں؟ تو آپ نے فرمایا تم جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے بکیر کو پھر تمہیں قرآن کا جو ناصح میسر ہوا ہے پڑھو پھر اطمینان سے رکوع کرو پھر رکوع سے سراخھا اور بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، اُن۔

(۲) عن عائشة قالت: و كان رسول الله ﷺ إذا رفع رأسه من الرکوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا. (صحیح مسلم: ۱/۱۹۳)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سراخھاتے تو خوب سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے سجدہ نہیں کرتے تھے۔

مسئلہ (۲۱) امام کے رکوع سے سراخھانے سے پہلے پہلے اگر آپ رکوع میں مل جائیں تو آپ رکعت کو پا جائیں گے۔

(۱) عن أبي هريرة ان رسول الله ﷺ قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه. (صحیح ابن خزیم: ۲۵۳، صحیح ابن حبان)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کے پشت اٹھانے سے پہلے رکوع کو پالیا اس نے رکعت پالی۔

(۲) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعتدوها شيئاً ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. (سنن ابو داود: ۱۴۲۹، مسنود حاکم: ۱/۲۱۶)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا جب تم نماز کو آؤ اور ہم سجدہ کی حالت میں ہوں تو سجدہ میں چلے جاؤ اور اس سجدہ کا اعتبار نہ کرو، اور جس نے رکوع پالیا اس نے رکعت پالی۔

(۳) عن ابن عمر قال: إذا أدرك الإمام راكعاً، فركعت قبل أن يرفع فقد أدرك وان رفع قبل أن ترکع فقد فاتتك. (مسنون عبد الرزاق: ۲/۷۸۶)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب تم نے امام کو رکوع کی حالت میں پالیا اور اس کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے تم نے رکوع کر لیا تو تم رکعت کو پا گئے اور اگر تمہارے رکوع میں جانے سے پہلے امام نے سراخھا لیا تو رکعت فوت ہو گئی۔

(۴) عن ابن عمر قال: إذا جئت والإمام راكعاً، فوضع يديك قبل أن يرفع رأسه فقد أدرك. (مسنون ابن أبي هيبة: ۱/۲۷۲ طبع کراچی)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب تو امام کے رکوع کی حالت میں آیا اور اس کے سراخھانے سے پہلے تو نے اپنے گھنٹے پر ہاتھ رکھ دیا تو تو نے رکعت کو پالی۔

مسئلہ (۲۲) رکوع سے کھڑے ہوتے وقت امام "سمع الله لمن حمده" کہے اور مقتدى "ربنا لك الحمد" کہیں۔

(۱) عن أبي هريرة أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال: إذا قال الإمام: "سمع الله لمن حمده" فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفرله ما تقدم من ذنبه. (صحیح بغداد: ۱/۱۰۹، صحیح مسلم: ۱/۲۷۲)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام جب سمع اللہ لمن حمده کہے تو تم لوگ (یعنی مقتدى) اللهم ربنا لك الحمد، کہو۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن ابی اوی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے پشت مبارک اٹھاتے تو کہتے "سمع الله لمن حمده اللہم ربنا لك الحمد ملائ السموات ملائ الارض و ملائ ما شئت من شيء بعده".

مسئلہ (۲۵) رکوں میں جانے اور رکوں سے اٹھنے کے وقت رفع
یہاں بہتر نہیں ہے۔

(۱) عن علقة قال: قال عبد الله بن مسعود ألا اصلى بكم صلاة رسول الله ﷺ فصلى، فلم يرفع يديه إلامرة واحدة ، قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين وهو قول سفيان وأهل الكوفة . (سنن ترمذی : ۵۹، وسنن ابو داود : ۱۰۹، وناسی : ۱۱۱، ومصنف ابن أبي شریعت : ۲۶۷، وهو حديث صحيح بعضها على شرط الشیخین وبعضها على شرط مسلم)
 ترجمہ: مشہور تابعی علقہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا نہ پڑھوں میں تمہاری تعلیم کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز، (اس تنبیہ کے) بعد حضرت عبد اللہ نے نماز پڑھی تو صرف عکبر تحریر کے وقت ہاتھ انھیا۔

(٢) عن عبد الله عن النبي ﷺ أنه كان يرفع يديه في أول تكبير ثم لا يعود. (شرح معانٰ الآثار: ١٣٢، وسنده توي)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ علیہ السلام بکیر تحریر میں باہمیوں کو اٹھاتے تھے پھر دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے۔

(٣) عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله ﷺ إذا افتتح

(٢) عن أنس، مرفوعاً، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به إذا كبر فكبروا وإذا رفع فأرکعوا وإذا سمع الله لمن حمده فقولوا اربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. (صحیح بندری ارج ۱۱۱ و صحیح مسلم ارج ۷۷۱)
ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول پاک علیہ السلام کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، امام بنی اہی جاتا ہے تاکہ اس کی افتادام کی جائے، امام جب تک بیر کہے تو اس کی پیروی میں تم لوگ بکبیر کہو اور جب وہ رکوع میں جائے تو اس کی پیروی میں تم لوگ رکوع کرو اور جب رکوع سے سر اٹھائے تو اس کی پیروی میں تم لوگ سر اٹھاؤ اور جب وہ "سمع الله لمن حمده" کہے تو تم لوگ "ربنا اللہ الہ اے" کہوں گے۔ وہ صحیح تھا لوگ صحیح کہوں گے۔

۱۱۔ (۲۲) رکوں و سجدے میں نام سے بھی کبھی سرنہ اٹھائیں۔

(١) عن أبي هريرة "مرفوعاً" أما يخشى أحدكم أو لا يخشى
أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار،

أو يجعل الله صورته صورة حمار. (صحیح بخاری: ۹۲۰، و صحیح مسلم: ۱۸۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ذرتا نہیں جب وہ اپنا سر امام سے پہلے اٹھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو یا اس کی صورت کو گدھے کے سریا صورت کی طرح بنادیں گے۔

مسئلہ (۲۳) اکیلے نماز پڑھنے والے رکوع سے ائمۃ کے و
قت "سمع الله لمن حمده اور" ر بنا لک الحمد" رونوں کہیں۔

(١) عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع، قال: سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد ملائكة السموات وملائكة الأرض وملائكة ما شئت

الصلاۃ رفع يدیہ حتی یحاذی بهما و قال بعضهم: حذو منکیہ وإذا اراد أن یرکع وبعد ما یرفع رأسه من الرکوع لا یرفعهما و قال بعضهم ولا یرفع بین السجدة تین والمعنى واحد. (صحیح ابو عوبۃ: ۹۰، و مسند جعید: ۲۷۷۲)

ترجمہ: سالم اپنے والد حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول خدا علیہ السلام کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع فرماتے تو رفع یدیں کرتے مونہ ہوں تک اور جب رکوع کرنے کا ارادہ فرماتے اور رکوع سے سر جبار ک اٹھانے کے بعد رفع یدیں نہیں کرتے تھے اور بعض روایوں نے بیان کیا کہ دونوں سجدوں کے درمیان بھی رفع یدیں نہیں کرتے تھے۔ سب روایوں کی روایت کا معنی ایک ہی ہے (مگر الفاظ مختلف ہیں)۔

تفصیلیہ: یہ روایت سنن کے لحاظ سے نہایت قوی اور علت و شذوذ سے بُری ہے، جن حضرات نے اس پر کلام کیا ہے اصول محدثین کی روئے وہ درست نہیں ہے، تفصیل کے لیے ہماری کتاب "تحقیق مسئلہ رفع یدیں" دیکھئے۔

(۴) عن ابن مسعود قال: صلیت خلف نبی اللہ علیہ السلام وابی بکر و عمر، فلم یرفعوا أیدیہم إلا عند افتتاح الصلاة وقال اسحاق وبه نأخذ في الصلاة كلها . (دارقطنی: ۲۹۵، و تیقی: ۲۹۱، و الجھر المحتی: ۲۹۱، و قال الحافظ الماردینی استادہ جید)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت ابو بکر صدیق وقاً اعظم کے ساتھ نماز پڑھی ان سب حضرات نے رفع یدیں نہیں کیا مگر پہلی تکمیر کے وقت، محدث اسحاق ابن الی اسرائیل کہتے ہیں کہ ہمارا سب نمازوں میں اسی پر عمل ہے۔

(۵) عن عباد بن الزبیر (مرسلا) أن رسول الله علیہ السلام كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه في أول الصلاة، ثم لم یرفعهما في شيء حتى

يفرغ. (نصب الراية: ۱/۳۰۳، و قال المحدث الكشميری فهو مرسل جيد)

ترجمہ: عباد بن زبیر (مرسلا) روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت علیہ السلام جب نماز شروع فرماتے تو شروع نماز میں رفع یدیں فرماتے اس کے بعد نماز کے کسی حصہ میں رفع یدیں نہ فرماتے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جاتے۔

(۶) عن الاسود قال رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه في أول تكبيره، ثم لا يعود وقال عبد الملك: ورأيت الشعبي وإبراهيم وأبا إسحاق لا يرفعون أيديهم إلا حين يفتحون الصلاة. (شرح معانی الآثار: ۱/۱۳۳، و مصنف ابن أبي شيبة: ۲۶۸، و مسند صحيح على شرط مسلم)

ترجمہ: اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ صرف تکبیر تحریر کے وقت رفع یدیں کرتے تھے، راوی عبد الملک کا بیان ہے کہ میں نے امام شعبی، امام ابراہیم تھی، اور محدث ابو اسحاق سیفی کو دیکھا کہ یہ حضرات بھی صرف تکبیر تحریر ہی کے وقت رفع یدیں کرتے تھے۔

(۷) عن عاصم بن كلیب عن أبيه أن علياً كان يرفع يديه في أول تكبيره من الصلاة ثم لا يعود. (شرح معانی الآثار: ۱/۱۳۲، و مصنف ابن أبي شيبة: ۲۶۷، و قال الحافظ الزیلی و هو اثر صحيح ، نصب الراية ، وقال الحافظ ابن حجر رحاله ثقات ، الدرایۃ : ۸۵)

ترجمہ: کلیب کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تکبیر تحریر کے وقت رفع یدیں کرتے تھے اس کے بعد پھر نہیں کرتے تھے۔

(۸) عن أبي إسحاق قال: كان أصحاب عبد الله وأصحابه على لا يرفعون أيديهم إلا في افتتاح الصلاة، وقال وكيع ثم لا يعودون. (مصنف ابن أبي شيبة: ۱/۲۶۷، و الجھر المحتی: ۲۹۲، و مسند صحيح على شرط الشیخین)

ترجمہ: ابو اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ

عنه کے تلامذہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تلامذہ صرف تکبیر تحریم کے وقت رفع یہ دین کرتے تھے۔

نحوٗ : اس مسلمہ میں حضرات صحابہ اور ان کے بعد فقہاء محدثین کا طریقہ عمل مختلف رہا ہے لیکن خلافے راشدین رضی اللہ عنہم سے تکبیر تحریم کے علاوہ رفع یہ دین ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اس کے راجح ہونے میں کیا کلام ہو سکتا ہے۔

سجدہ :

مسئلہ (۳۶) قوم کے بعد تکبیر کہتے ہوئے بجہہ میں جائیں، بجہہ میں جاتے وقت درج ذیل باتوں کا خیال رکھیں۔

(الف) سب سے پہلے گھنٹوں کو خم دے کر انھیں زمین کی طرف لے جائیں۔

(ب) جب گھنٹے زمین پر نکل جائیں تو اس کے بعد بننے کو جھکائیں۔

(ج) گھنٹوں کو زمین پر رکھنے کے بعد ہاتھ پھر ناک پھر پیشانی زمین پر رکھیں۔

مسئلہ (۲۷) سجدہ میں دونوں گھنٹے، دونوں ہاتھ، دونوں پیر کی انگلیاں اور پیشانی مع ناک زمین پر نیک دیں۔

(۱) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الشياطين والشعر. (صحیح بخاری: ۱۱۱۲ و صحیح مسلم: ۱۹۳)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ

(۱) عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه إذا سجد يضع ركبتيه قبل بيده وإذا نهض رفع بيده قبل ركبتيه. (سنن ترمذی: ۶۱/۱، سنن ابو داؤد: ۱۲۲، و سنن ابن ماجہ: ۴۲، و سنن داری: ۱۷، ۳۳، و مسند رک حاکم: ۱۲۵/۱، قال الترمذی هذا حديث غريب حسن لا تعرف أحداً روواه غير شريك قال وروى همام عن عاصم هذا مرسل ولم يذكر فيه وائل، وقال العلامة النيموي في آثار السنن فالحديث لا ينحط عن درجة الحسن لكترة طرقه: ۱۱۷/۱)

ترجمہ: حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ

علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ جب بجہہ کرتے تو اپنے گھنٹے زمین پر ہاتھوں کے رکھنے سے پہلے رکھتے تھے۔

(۲) عن علقمہ والأسود قالا: حفظنا عن عمر فی صلاته أنه خرَّ بعد رکوعه علی ركبتيه كما يخرَ البعير ووضع ركبتيه قبل يديه. (شرح معانی الآثار: ۱۵۱)

ترجمہ: علقمہ اور اسود دونوں حضرات بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نماز سے یاد ہے کہ وہ رکوع کے بعد بجہہ کے لیے جھکے جس طرح اونٹ بیٹھنے کے وقت جھکتے ہیں اور اپنے گھنٹوں کو ہاتھوں سے پہلے زمین پر رکھا۔

(۳) عن عبد الله بن يسار إذا سجد وضع ركبتيه، ثم يديه ثم وجهه، فإذا أراد أن يقوم رفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه قال عبد الرزاق وما أحسن من حديث وأعجب به. (مسن عبد الرزاق: ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۷، و قد سقط من الأساند "عن أبي" و مصنف ابن أبي حميد: ۲۹۵)

ترجمہ: عبد اللہ بن مسلم بن یسار اپنے والد کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ جب بجہہ کرتے تو پہلے گھنٹوں کو رکھنے پھر ہاتھوں کو پھر چہرے کو اور جب بجہہ سے اٹھنے کا رادہ کرتے تو پہلے چہرے کو اٹھاتے پھر ہاتھوں کو پھر گھنٹوں کو۔

مسئلہ (۲۷) سجدہ میں دونوں گھنٹے، دونوں ہاتھ، دونوں پیر کی انگلیاں اور پیشانی مع ناک زمین پر نیک دیں۔

(۱) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الشياطين والشعر. (صحیح بخاری: ۱۱۱۲ و صحیح مسلم: ۱۹۳)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سات اعضاء پر سجدہ کرو: پیشانی مع ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پیر کی انگلیوں پر، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز میں کپڑوں اور بالوں کو نہ کہیں۔

مسنلہ (۲۸) سجدہ میں پیشانی دونوں ہاتھ کے درمیان رکھیں۔

(۱) عن وائل بن حجر "مرفوعا" فلما سجد سجد بین کفیہ۔ (سلم: ۱۷۳، اسن: ۱۴۶، ابو داؤد: ۱۳۸)

ترجمہ: حضرت ابو حمید الساعدی سے منقول ہے کہ نبی پاک ﷺ جب زمین پر گرتے سجدہ کے لیے تو اپنے بازوں کو بغل سے دور رکھتے اور پیر کی انگلیوں کو موڑ دیتے (تاکہ قبلہ رخ ہو جائیں)۔

(۲) وعده قال رمقت النبی ﷺ فلما سجد وضع یدیہ حذاء اذنیہ۔ (سن النسائی: ۱۴۶، و شرح معانی الآثار: ۱۵۱، و مصنف عبد الرزاق: ۷۵۲، و اسناده صحیح)

ترجمہ: حضرت واکل بن جحر ہی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نے سجدہ کیا تو ہاتھوں کو کانوں کے برابر رکھا۔

سجدے میں جب ہاتھوں کو کانوں کے برابر رکھا جائے گا تو لامحالہ پیشا نی ہاتھوں کے نیچے میں ہو گی۔

مسنلہ (۲۹) بحال سجدہ ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر قبلہ رخ رکھیں اور پیر کی انگلیوں کو بھی قبلہ کی جانب موڑ رکھیں۔

(۱) عن أبي حمید الساعدی قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل باطراط رجلية القبلة۔ (صحیح البخاری: ۱۱۳)

ترجمہ: حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ کو

دیکھا کہ آپ نے جب سجدہ کیا تو ہاتھ کی انگلیوں کو پھیلائے اور بند کئے بغیر زمین پر رکھا (یعنی مٹھی کھلی ہوئی رکھا اور انگلیوں کے درمیان کشادگی کے بجائے انہیں آپس میں ملا کر زمین پر رکھا) اور پیر کی انگلیوں کو بھی قبلہ رخ رکھا۔

(۲) عن ابی حمید الساعدی قال: كان النبي ﷺ إذا سجد على الأرض ساجداً جافى عضديه عن ابطيه وفتح أصابع رجليه۔ (سن: ۱۴۶، ابو داؤد: ۱۳۸)

ترجمہ: حضرت ابو حمید الساعدی سے منقول ہے کہ نبی پاک ﷺ جب زمین پر گرتے سجدہ کے لیے تو اپنے بازوں کو بغل سے دور رکھتے اور پیر کی انگلیوں کو موڑ دیتے (تاکہ قبلہ رخ ہو جائیں)۔

مسنلہ (۳۰) کہیوں کو زمین پر نہ بچھائیں بلکہ زمین سے اٹھی رکھیں۔

(۱) عن انس قال: قال رسول الله ﷺ: اعدلوا في السجود ولا يسيط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب۔ (صحیح بخاری: ۱۱۳، و صحیح مسلم: ۱۹۳)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا سجدہ میں درست رہو اور تمہارا کوئی اپنے بازوں کو زمین پر نہ بچھائے جس طرح سے کہ کھاز میں پر بازوں کو بچھاتا ہے۔

(۲) عن براء بن عازب قال قال رسول الله ﷺ إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك۔ (صحیح مسلم: ۱۹۳)

ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب سجدہ کرو تو اپنی ہاتھیوں کو زمین پر رکھو اور کہیوں کو زمین سے اٹھی رکھو۔

مسنلہ (۳۱) سجدہ میں دونوں بازوں کو پہلوؤں سے دور رکھیں (البتہ اس

قدرتہ پھیلائیں جس سے برابر کے نمازوں کو تکلیف ہو) نیز پیش اور رانوں کے درمیان فاصلہ رکھیں۔

(۱) عن عمر و بن الحارث أن رسول الله ﷺ كان إذا سجد فرج يديه عن ابطيه حتى أني لارى بياض ابطيه. (صحیح مسلم: ۱/ ۱۹۳)

ترجمہ: حضرت عمر و بن الحارث رضی اللہ عنہم کی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب سجدہ کرتے تو اپنے بازوں کو بغسل سے اس قدر ہٹا کر رکھتے کہ میں آپ کی بغسل مبارک کی سفیدی دیکھ لیتا۔

(۲) عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ لا تبسط ذراعيك وادعم على راحتيك وتجاف عن ضعيك، فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو معك منك . (مدرس حاکم: ۱/ ۲۲۷)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کی بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (سجدہ میں) اپنے بازوں کو زمین پر نہ بچھاؤ اور ہتھیلوں کو زمین پر جہادو اور بازوں کو دونوں پہلو سے دور رکھو، جب تم اس طرح سجدہ کرو گے تو تمہارے ساتھ تمہارے سب اعضاء سجدہ کریں گے۔

مسئلہ (۳۲) سجدہ کی حالت میں کم از کم اتنی دیر گزاریں کہ تین مرتبہ "سبحان ربی الاعلیٰ" اطمینان کے ساتھ کہہ سکیں، پیشانی میکتے ہی فوراً اٹھالیزا مناسب نہیں ہے۔

(۱) عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: إذا سجد أحدكم فقال في سجوده: "سبحان ربِي الْأَعْلَى" ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه . (سنن ترمذی: ۱/ ۲۵۸، سنن ابو داود: ۱/ ۱۲۹، سنن ابن ماجہ: ۱/ ۶۳)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا تمہارا کوئی جب سجدہ کرتا ہے اور سجدہ میں تین بار "سبحان ربی

الاعلیٰ" کہہ لیتا ہے تو اس کا سجدہ پورا ہو جاتا ہے۔ اور یہ تعداد کمال کی اونٹی ہے)

(۲) عن أبي هريرة قال: نها نى رسول الله ﷺ عن ثلا ث عن نقرة كنقرة الد يك ، وإقعا ء كإقعا ء الكلب والتفات كالتفات الشعلب (متدا حم: روایت سندہ لین)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں سے منع فرمایا: (۱) سجدہ میں مرغ کی طرح چوخ مارنے سے (یعنی جس طرح مرغ زمین پر جوچ مارتا ہے اور فوراً اٹھاتا ہے اس طرح سجدہ نہ کرو۔ (۲) اور کتنے کی بیٹھک بیٹھنے سے (کہ سرین کو زمین پر نیک کر دنوں پیروں کو کھڑا کر دیں اور دنہوں سے زمین پر نیک لگائیں)۔ (۳) لو مرٹی کی طرح ادھر ادھر دیکھنے سے۔

مسئلہ (۳۳) سجدہ سے فارغ ہو جائیں تو سکر کہتے ہوئے سر اٹھائیں اور بایاں پیر بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دایاں پاؤں اس طرح کھڑا رکھیں کہ اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہو جائیں۔

(۱) عن عائشة (مرفووعاً) وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالساً وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى . (صحیح مسلم: ۱/ ۱۹۲)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سجدہ میں نہ جاتے یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاتے، اور جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو دوسرا سجدہ نہ کرتے یہاں تک کہ سیدھے بیٹھے جاتے اور فرماتے تھے کہ ہر دور کعut میں التحیات ہے اور بایاں پاؤں بچھاتے اور دایاں پیر کھڑا رکھتے۔

اللَّهُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَلَسَ مِنْ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبِرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي" كَتَبَ تَحْتَهُ۔

تفصیل: پھول کے فرائض میں تخفیف کا حکم ہے اس لیے اس دعا کو سنن و نوافل میں پڑھا جائے چنانچہ سنن ماجہ میں اس دعا کو نماز تجدید میں پڑھنے کی صراحت موجود ہے۔

مسئلہ (۳۵) جلسے کے بعد سمجھیر کہتے ہوئے دوسرے سجدہ میں جائیں اور اس سجدہ کو بھی پہلے سجدہ کی طرح ادا کریں۔

(۱) عن رفاعة بن رافع (فی حديث مسی صلاتہ مرفوعاً) ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قاعد ا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، الحديث۔ (سن نائل: ۱/۱۲۱، و صحیح بخاری: ۹۸۶/۲، عن أبي هريرة) ترجمہ: حضرت رفاعة بن رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو پھر سجدہ سے سر اٹھاؤ اور اطمینان سے بیٹھو اور بعد ازاں دوسری سجدہ اطمینان کے ساتھ کرو۔

جلسہ استراحت

مسئلہ (۳۶) دوسری سجدہ کر چکیں تو سمجھیر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے سیدھے پھول کے بل کھڑے ہو جائیں، جلسہ استراحت (یعنی دوسرے سجدہ کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنے) کی ضرورت نہیں۔

(۱) عن أبي هريرة (فی حديث مسی صلاتہ مرفوعاً) ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي و تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستری قائمًا، الحديث۔ (صحیح بخاری: ۹۸۶/۲، و سنن ابو داود: ۱/۱۲۳، میثاق اختلاف بیبر و مندار: ۱/۳۷۱، و فیہ ضعف، كما قال العلامہ الیمومی فی آثار السنن: ۱/۱۱۹)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ

(۲) عن أبي حميد الساعدي (مرفوعاً) ثم یہوی إلى الأرض، فيجافي يديه عن جنبه ثم یرفع رأسه ويثنى رجله اليسرى ويقدم عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم یسجد ثم یقول الله اکبر۔ الحديث۔ (سن ترمذی: ۱/۴۷۲، و سنن ابو داود: ۱/۱۰۶، و استادہ صحیح)

ترجمہ: حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کی نماز کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں پھر آپ ﷺ کے سامنے سجدہ کے لیے زمین کی طرف بیٹھے اور سجدہ میں ہاتھوں کو پہلو سے دور رکھا پھر سجدہ سے سر کو اٹھایا اور اپنے بائیں پیر کو پچھایا اور اس پر بیٹھئے اور سجدہ کی حالت میں پیر کی انگلیوں کو (جانب قبلہ) موڑے رکھا پھر سمجھیر کہتے ہوئے دوسری سجدہ کیا۔

مسئلہ (۳۷) جلسے میں کم از کم اتنی دیر بیٹھیں کہ اس میں "رب اغفرلی" کہہ سکیں۔

(۱) عن حذيفة (مرفوعاً) و كان يقول بين السجدتين "رب اغفرلی ، رب اغفرلی"۔ (سن نائل: ۱/۷۲۱، و سن داری: ۱/۳۲۹، طبع کراچی و رواہ ابو داود ضمن حديث طویل فی كتاب الصلوة باب ما يقول الرجل في رکوعه وسجوده: ۱/۱۲۷)

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول ﷺ دونوں سجدے کے درمیان یعنی جلسہ میں رب اغفرلی، رب اغفرلی کہتے تھے۔

(۲) عن ابن عباس كان رسول الله ﷺ يقول بين السجدتين "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبِرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي"۔ (سن ترمذی: ۱/۲۸۱، و سنن ابو داود: ۱/۱۲۳، میثاق اختلاف بیبر و مندار: ۱/۳۷۱، و فیہ ضعف، كما قال العلامہ الیمومی فی آثار السنن: ۱/۱۱۹)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مہاروایت کرتے ہیں کہ رسول

نے فرمایا کہ پھر اطیمان کے ساتھ سجدہ کرو پھر سجدہ سے سراخہ اور اطیمان کے ساتھ بیٹھ جاؤ پھر دوسرا سجدہ اطیمان کے ساتھ کرو پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔
(۲) عن عباس او عیاش بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه وكان من أصحاب النبي ﷺ وفي المجلس أبو هريرة وأبو حميد الساعدي وأبو اسید ، (فذكر الحديث) و فيه ثم كَبَرَ

فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتُورِكْ : (سن ابو داود: ارج ۱۰، واسناده صحیح)

ترجمہ: عباس یا عیاش بن سہل ساعدی سے روایت ہے کہ وہ ایک مجلس میں تھے جس میں ان کے والد "جو صحابی ہیں" بھی تھے نیز مجلس میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو حمید ساعدی اور حضرت ابو اسید رضوان اللہ علیہم بھی تھے تو عباس یا عیاش کے والد سہل ساعدی نے حدیث بیان کی جس میں یہ ہے کہ پھر آنحضرت ﷺ نے تکبیر کی اور سجدہ کیا پھر تکبیر کی اور کھڑے ہو گئے اور تورک نہیں کیا یعنی کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھے نہیں۔

(۳) عن أبي هريرة قال: كان النبي ﷺ ينهض في الصلاة على صدور قدميه ، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل على صدور قدميه . (سن ترمذی: ۶۵-۶۶)
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نماز میں پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے (یعنی سجدہ سے اٹھ کر بغیر بیٹھے سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے) امام ترمذی کہتے ہیں اہل علم کا حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پر عمل ہے وہ اسی کو پسند کرتے ہیں کہ آدمی (نماز میں دوسری و تیسرا رکعت کے لیے بغیر بیٹھے) پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے۔

(۴) عن الشعبي أن عمرو عليا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم . (مصنف ابن

ابی هشیۃ: ارج ۳۳۱، طبع کراچی)

ترجمہ: امام فتحی کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق، اور حضرت علی مرضیٰ اور بہت سارے صحابہ نماز میں پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے۔

(۵) عن نعمان بن ابی عیاش قال: أدركت غير واحد من أصحاب النبي ﷺ فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجعلس . (مصنف ابن ابی هشیۃ: ارج ۳۳۱، دساندہ حسن)

ترجمہ: نعمان بن ابی عیاش کہتے ہیں میں نے ایک سے زائد بھی پاک ﷺ کے صحابی کو پایا کہ وہ جب پہلی اور تیسرا رکعت کے سجدے سے سراخہ تھے تو اسی حالت میں کھڑے ہو جاتے اور بیٹھے نہیں تھے۔

مسئلہ (۳۷) کسی عذر کی بنابر دوسرے سجدہ سے فارغ ہو کر بیٹھے جائیں اور پھر اٹھیں تو خلاف سنت نہیں ہو گا۔

عن ابی قلابة قال: أخبرني مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي ﷺ يصلى، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً . (صحیح بخاری: ارج ۱۱۳، وسن ترمذی: ۶۲/۱)

ترجمہ: مالک بن الحويرث لیثی کا بیان ہے کہ انھوں نے نبی پاک ﷺ کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے آپ جب پہلی اور تیسرا رکعت میں ہوتے تو سجدہ سے فارغ ہو کر کھڑے نہیں ہوتے تھے یہاں تک (سیدھے بیٹھے جائیں)

مسئلہ (۳۸) سجدہ سے اٹھتے وقت زمین سے پہلے سراخہ ایں پھر ہاتھ پھر گھٹھے اور بغیر کسی عذر کے ہاتھوں کو زمین پر نہ ٹکیں۔

(۱) عن وائل بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه . (سن ابو داود: ۱۲۲/۱، وسن ترمذی: ۲۱/۱، وحسن).

ترجمہ: حضرت واکل بن جرج رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی پاک ﷺ کو دیکھا کہ جب سجدے میں جاتے تو ہاتھوں سے پہلے گھنٹوں کو رکھتے تھے اور جب سجدے سے اٹھتے تو گھنٹوں سے پہلے ہاتھوں کو زمین سے اٹھاتے تھے۔

(۲) عن ابن عمر قال نهى رسول الله ﷺ أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة . (سنابروارد: ۱۳۲)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ نماز میں اٹھتے وقت آدمی ہاتھوں کو زمین پر فیک دے۔

(۳) عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه قال: إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخاً كبيراً لا يستطيع . (مسند ابن أبي هيبة: ۳۳۲)

ترجمہ: ابو جحیفہ راوی ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فرض نماز کی سنت میں سے ہے کہ آدمی جب پہلی رکعتوں سے اٹھتے تو زمین پر فیک نہ لگائے مگر جب کہ نہایت بوڑھا ہو کہ بغیر فیک لگائے اٹھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔

دوسری رکعت

مسئلہ (۳۹) دوسری رکعت میں شاوراعوذ بالله نہ پڑھیں بلکہ آہستہ سے بسم اللہ پڑھ کر قرأت شروع کر دیں اور باقی احکام میں دوسری رکعت پہلی رکعت ہی کی طرح ہے۔

(۱) عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين

ولم يسكت . (صحیح مسلم: ۲۱۹)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب دوسری رکعت میں اٹھتے تو الحمد للہ رب العالمین سے قرأت شروع فرمادیتے شادغیرہ کے لیے خاموش نہ ہوتے تھے۔

قعدۃ اویٰ

مسئلہ (۴۰) دوسری رکعت کے سجدے سے فارغ ہو کر بیٹھ جائیں اور التحیات پڑھیں۔

(۱) عن عائشة "مرفوعاً" و كان يقول في كل ركعتين التحية، الحديث . (صحیح مسلم: ۱۹۳)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اور رسول خدا ﷺ ہر دور رکعت پر التحیات پڑھتے تھے۔

(۲) عن عبد الله بن مسعود قال علمي رسول الله صلی الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة و آخرها . (سن احمد: ۳۵۹، و صحیح الزوادری و قال رجال موثقون: ۱۳۲)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے سکھایا نماز کے درمیان میں اور آخر میں التحیات پڑھنا۔

(۳) عنه قال: قال لنا رسول الله ﷺ: قولوا في كل جلسة التحية ، الحديث . (سن نبی: ۱۷۳)

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہی سے مردی ہے کہ ہم سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر قعدہ میں التحیات پڑھو۔

(۴) عنه "مرفوعاً" فقال: إذا قعد تم في كل ركعتين فقولوا

التحيات - الحديث. (سنن نسائي: ۱۷۳۱)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر دور کھت میں التحیات پڑھو۔

رسول اللہ ﷺ (۲۱) قعده کا طریقہ یہ ہے کہ بیان بازوں بچا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دلیاں پیر اس طرح کھرا کر لیں کہ اس کی انگلیاں مزکر قبلہ رخ ہو جائیں اور بحال عذر جس طرح قدرت ہواں طرح بیٹھیں دونوں قعده میں بیٹھنے کا یہی طریقہ ہے۔

(۱) عن عائشة "مرفوعاً" و كان يفترش رجله اليسرى و ينصب رجله اليمنى و كان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراض السبع. (صحیح سلم: ۱۹۵، ۱۹۶)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مردی ہے کہ اور رسول اللہ ﷺ اپنے بازوں کو بچاتے تھے اور دابنے پیر کو کھرا کھتے تھے اور شیطان کی بیٹھک بیٹھنے سے منع فرماتے تھے اور اس بات سے بھی منع فرماتے تھے کہ آدمی اپنے بازوں کو زمین پر بچادے جس طرح کہ درندے جانور بچاتے ہیں، (حدیث پاک کا عموم دونوں قعده کو شامل ہے)۔

وضاحت: سرین کو زمین پر رکھ کر دونوں گھنٹے کھڑے کر دیں اور دونوں ہاتھ زمین پر لیک دیں اس طرز بیٹھنے کو "عقبة الشيطان" اور "اقعاء" کہا جاتا ہے جس سے حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے۔

(۲) عن وائل بن حجر قال: قدمت المدينة، فقلت: لانظر إلى صلاة رسول الله ﷺ، فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه

عند أكثر أهل العلم . (سنن ترمذى: ۶۵۱)

ترجمہ: حضرت واکل بن جر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ حاضرا ہوا تو میں نے اپنے جی میں کہا کہ رسول اللہ ﷺ کی نماز کو دیکھوں گا تو جب آپ التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھے تو اپنے باائیں بازوں کو بچادیا اور باائیں ہاتھ کو باائیں ران پر رکھا اور دابنے بازوں کو کھرا کر دیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اکثر اہل علم کے نزدیک اسی حدیث پر عمل ہے۔

رسول اللہ ﷺ (۲۲) قعده میں ہتھیلوں کو گھنٹے کے متصل ران پر رکھے رہیں اور تشهید پڑھیں۔

(۱) عن عبد الله بن عمر "مرفوعاً" كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ووضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، الحديث . (صحیح سلم: ۲۱۲، موطا مالک: ۱/۱، مصنف عبد الرزاق: ۱۹۵، ۲)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز میں بیٹھتے تو باائیں ہتھیلوں کو باائیں ران پر اور دابنے ہتھیلوں کو دیکھیں ران پر رکھتے۔

(۲) عن عبد الرحمن بن قاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه يرى عبد الله بن عمر يتربيع في الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما منة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتنثني اليسرى، فقلت إنك تفعل ذلك، فقال: إن رجلاً لا تحملاني . (صحیح بخاری: ۱۱۳، موطا مالک: ۱/۷۳)

ترجمہ: عبد الرحمن بن قاسم کہتے ہیں مجھے عبد اللہ بن عبد اللہ بن عمر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی نماز میں الٹی پلتی مار کر بیٹھتے دیکھا تو وہ بھی اسی طرح الٹی پلتی بیٹھے، عبد اللہ بن عبد اللہ کا بیان ہے کہ وہ

اس وقت کم سن تھے، تو حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھے منع فرمایا اور کہا کہ نماز کی سنت یہی ہے کہ تم اپنے دامیر پاؤں کو کھڑا رکھو اور بائیں پیدر کو بچھا دو، میں نے عرض کیا کہ آپ تو اتنی طبقی بیٹھتے ہیں تو فرمایا کہ میرے پاؤں (کمزور ہو گئے ہیں) مجھے اٹھا نہیں پاتے۔

وضاحت:

بعض یہودیوں نے ایک موقع پر انھیں اور پرستے یونچ گرایا تھا جس کے صدر سے ان کے پیر کمزور ہو گئے تھے اور سنت کے مطابق بیٹھنے میں پاتے تھے۔ **مسنلہ (۲۳)** احادیث میں التحیات مختلف الفاظ میں منقول ہے جن میں سب سے زیادہ مشہور اور بہتر عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مردی تشدید ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

(۱) عن عبد الله بن مسعود قال: علمني رسول الله ﷺ التشهد كفى بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، فقال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فيقل :

"التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبدٌ ه ورسوله." (صحیح بخاری: ۹۲۶/۲، صحیح مسلم: ۱۷۳۷، وسنن ترمذی: ۲۵۲، وقال الترمذی حدیث ابن مسعود قدروی عنه من غير وجه وهو أصح حدیث عن النبي ﷺ في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم من التابعين)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے مردی ہے کہ رسول خدا ﷺ جب قعدہ میں تشدید پڑھتے تو اپنے داہنے ہاتھ کو داہنی ران پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھتے تھے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرماتے اور

تھے اور مزید اہتمام کی غرض سے مصافی کی طرح میرے ہاتھ کو اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کے درمیان پکڑے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب نماز میں بیٹھنے تو پڑھے:

"التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبدٌ ه ورسوله."

امام ترمذی کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود سے یہ حدیث متعدد سندوں سے مردی ہے اور تشدید کے سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول یہ سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے اور اسی تشدید کو علماء میں سے اکثر صحابہ کرام اور تابعین عظام پڑھتے ہیں۔

مسنلہ (۲۴) التحیات پڑھتے وقت جب اشہد ان لا پر چکیں تو شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں جس کا طریقہ یہ ہے کہ پیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقة بنائیں اور چھٹگلی اور اس کے برابر والی انگلی کو بند کر لیں، اور شہادت (یعنی کلس) کی انگلی کو اس طرح اٹھائیں کہ قبلہ کی جانب جھلک ہوئی ہو بالکل سیدھی آسمان کی طرف نہ اٹھائیں۔

(۱) عن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله ﷺ إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار باصبعه السبابية ووضع إبهامه على اصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. (صحیح مسلم: ۲۱۶۱)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے مردی ہے کہ رسول خدا ﷺ جب قعدہ میں تشدید پڑھتے تو اپنے داہنے ہاتھ کو داہنی ران پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھتے تھے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرماتے اور

أنه رأى النبي ﷺ قاعداً في الصلاة ذراعه اليمني على فخذه اليمني رافعاً صبعه السبابة قد احناها شيئاً و هو بدعوه . (سنن نافع: ۱۸۷/۱)

ترجمة: مالك بن نمير الخزاعي اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو نماز میں بحالت قعود دیکھا کہ اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر اور دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھے ہوئے ہیں اور شہادت کی انگلی کو اس طرح اٹھائے ہوئے ہیں کہ تھوڑی سی جھکی ہوئی تھی، آپ ﷺ تھہید میں اشارہ کر رہے تھے۔ (اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اشارہ کرتے وقت انگلی کو سیدھے آسمان کی جانب نہ اٹھایا جائے)۔

مسئلہ (۲۵) صرف ایک انگلی سے اشارہ کریں۔

(۱) عن سعد قال مر رسول الله ﷺ و أنا أدعوك باصبعي فقال أحد أحد وأشار بالسبابة. (سنن نافع: ۱۸۷/۱)

ترجمہ: حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ گذرے اور میں تھہید میں دو انگلیوں سے اشارہ کر رہا تھا تو آپؐ نے فرمایا ایک انگلی سے، ایک انگلی سے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا۔

مسئلہ (۲۶) ثنا ابو عوز بالله، لسم الله كي طرح التحيات بھی آہستہ پڑھیں۔

(۱) عن ابن مسعود قال من السنة ان يخفى التشهد . (سنن ابو داود: ۱۴۳۲/۱، و سنن ترمذی: ۲۵۰، و حسن و مسندر حاکم: ۲۶۷/۱، و صححه)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ التحیات کا آہستہ پڑھناست میں سے ہے۔

مسئلہ (۲۷) فرضی، واجب اور سنت مؤكدہ نمازوں کے پہلے تقدہ میں التحیات پڑھ کر تیری رکعت کے لیے اٹھ جائیں التحیات پر کچھ اضافہ کریں۔

انگوٹھے کو پیچ کی انگلی پر رکھتے اور لقمہ بناتے گھنٹے کو باسیں ہتھیل کا (یعنی باسیں ہتھیل کو گھنٹے سے اس قدر قریب رکھتے کہ گھنٹا ہتھیلوں کے اندر آ جاتا)۔

(۲) عن عبد الله بن الزبير أنه ذكر أن النبي ﷺ كان يشير باصبعه إذا دعا ولا يحر كها. (سنن ابو داود: ۱۴۳۲/۱، قال النووي اسناده صحیح)

ترجمہ: عبد اللہ بن زیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی ﷺ جب اللہ کو توحید کے ساتھ پکارتے تو اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کرتے اور انگلی کو اٹھاتے وقت ہلاتے نہیں تھے۔

(۳) عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين وأشار بالسبابة. (صحیح مسلم: ۲۱۶)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب تھہید پڑھنے کے لیے بیٹھتے تو دائیں ہاتھ کو دائیں گھنٹے پر رکھتے اور دائیں ہاتھ کو دائیں گھنٹے پر رکھتے اور تین کا عقد کر کے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے۔

نحو: چھنگی اور اس کے متصل انگلی نیز پیچ کی انگلی بند کر کے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنانے کو عقد ثلاث و خمسین کہا جاتا ہے۔

(۳) عن وائل بن حجر قال رأيت النبي ﷺ قد حلق الابهام والوسطي ورفع التي تليها يدعوبها في التشهد. (رواها الحسن بن علي بن أبي طالب وسنن أبي داود: ۱۴۳۲/۱)

ترجمہ حضرت واکل بن حجر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی پاک ﷺ کو دیکھا کہ انگوٹھے اور پیچ کی انگلی سے حلقہ بنائے ہیں اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں، تھہید پڑھنے کی حالت میں۔

(۴) عن مالك بن نمير الخزاعي من أهل البصرة أن أبااه حدثه

ظاهرۃ فی الرکعتین کانہ علی الرصف، قلت: یقوم، قال: ذلك یربد.
 (من نائل: ۱۳۲، و من ترمذی) قال ابو عیسیٰ هذا حديث حسن إلا أن أنا عبیدة لم
 يسمع من أبيه والعمل هذا عند أهل العلم بختارون أن لا يبطل الرجل القعود في
 الرکعتین الأولین ولا یزید على الشهاد شیتاً فی الرکعتین الأولین وقالوا: إن زاد على
 الشهاد فعليه سجدة السهو هكذا روى عن الشعبي وغيره (٨٥/١)

ترجمہ: ابو عبیدہ اپنے والد حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل
 کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ دوسری رکعت (یعنی قعدہ اولی) میں اس قدر
 جلدی کرتے گویا جلتے توے پر بیٹھتے تھے۔ راوی ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا
 تیری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے لیے یہ جلدی فرماتے تھے تو ابن مسعود
 نے فرمایا: یہی ارادہ فرماتے تھے۔

امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن سے البت (مرسل ہے کیوں کہ)
 ابو عبیدہ نے اپنے والد سے نہیں سنائے (لیکن موید بالعمل ہے) اور اسی پر اہل علم
 کا عمل ہے یہ حضرات اسی کو پسند کرتے ہیں کہ آدمی دوسری رکعت میں قعود کو
 درازناہ کرے اور اس میں التحیات کے علاوہ کچھ حصہ پڑھے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ
 اگر پہلے قعدہ میں تشهد کے ساتھ کچھ اور پڑھ لے گا تو اس پر سجدہ سہوواجب ہو گا،
 یہی مسیک امام شعیی وغیرہ سے مردی ہے۔

(٤) عن تمیم بن سلمة قال كان أبو بکر إذا جلس في الرکعتین
 كان علی الرصف يعني حتى یقوم. (مسنون ابن أبي شیخ: ٣٢٩/١)

ترجمہ: تمیم بن سلمہ نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوسری
 رکعت میں بیٹھتے تو ایسا لگتا گویا جلتے توے پر بیٹھتے تھے یعنی قعدہ اولی سے تیری
 رکعت کے لیے جلدی سے کھڑے ہو جاتے تھے۔

ہمسطہ (٣٨) تیری اور پڑھی رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھیں،

(١) عن عبد الله بن مسعود قال علمي رسول الله ﷺ
 التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها ، قال فكان يقول: إذا جلس في
 وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى "التحيات لله والصلوات
 والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا
 وعلى عباد الله الصالحين اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا
 عبد الله رسوله" قال ثم ان كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من
 تشهده وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بماشاء الله أن يدعوه ثم
 يسلم . (مسند احمد: ۳۵۹، و صحیح ابن خیرۃ: ۳۵۰)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں
 نے کہا رسول اللہ ﷺ نے مجھے تشهد پڑھنا کھایا درمیان نماز میں اور آخر نماز
 میں، حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب
 درمیان نماز اور آخر نماز میں اپنے کو نہیں پر بیٹھتے تو التحیات لله والصلوات
 والطيبات انجام دیتے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر آپ درمیان نماز
 میں ہوتے تو التحیات سے فارغ ہوتے ہی کھڑے ہو جاتے اور اگر آخر نماز
 میں ہوتے تو التحیات کے بعد دعا پڑھتے جو دعا بھی اللہ چاہتا کہ آپ پڑھیں
 اس کے بعد سلام پھیرتے۔

(٢) عن عائشة أن رسول الله ﷺ كان لا يزید في الرکعتین
 على التشهد . (مسند ابو بیلی: ٣٣٧/٧)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ
 دوسری رکعت میں التحیات پڑیا تو نہیں فرماتے تھے۔

(٣) عن أبي عبیدة عن عبد الله بن مسعود قال: كان النبي

ان دونوں رکعتوں میں قرأت کے احکام اور ان کے دلائل مسائل قرأت میں گذرچے ہیں انھیں دیکھ لیا جائے۔

قدرة اخیرہ:

مسئلہ (۲۹) نماز کے آخر میں تعدد اولیٰ کی طرح پھر بیشیں اور التحیات کے ساتھ درود شریف بھی پڑھیں۔

(۱) عن أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله ﷺ: علمني دعاءً ادعوه به في صلاتي؟ قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم . (صحیح بخاری: ۱۱۵، وصحیح مسلم: ۳۲۷۲، وصحیح مسلم: ۳۲۷۳)

ترجمہ: حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ انہوں نے رسول خدا ﷺ سے عرض کیا کہ حضور مجھے کوئی دعا سکھا و تبکر کے میں اسے اپنی نماز میں کیا کروں تو آپ نے فرمایا (یہ دعا) کیا کہ:
اے اللہ تعالیٰ نے اپنی جان پر بہت ظلم کئے ہیں اور گناہوں کو آپ کے علاوہ کوئی تبکر والا نہیں ہے لہس مجھے اپنی جانب سے مغفرت عطا فرمائے اور مجھ پر رحم کیجئے یقیناً آپ تبکر کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔

(۲) عن عائشة أن رسول الله ﷺ يدعوا في الصلاة.
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحييا وفتنة الممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغنم. الحديث. (صحیح بخاری: ۱۱۵/۱، وصحیح مسلم: ۲۱۷/۱، ومؤطرا مالک: ۱۹۸، ابروایہ ابن عباس)

حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید .

مسئلہ (۵۰) درود شریف کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کوئی دعا پڑھیں۔

(۱) عن أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله ﷺ: علمني دعاءً ادعوه به في صلاتي؟ قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم . (صحیح بخاری: ۱۱۵، وصحیح مسلم: ۳۲۷۲، وصحیح مسلم: ۳۲۷۳)

ترجمہ: حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ انہوں نے رسول خدا ﷺ سے عرض کیا کہ حضور مجھے کوئی دعا سکھا و تبکر کے میں اسے اپنی نماز میں کیا کروں تو آپ نے فرمایا (یہ دعا) کیا کہ:
اے اللہ تعالیٰ نے اپنی جان پر بہت ظلم کئے ہیں اور گناہوں کو آپ کے علاوہ کوئی تبکر والا نہیں ہے لہس مجھے اپنی جانب سے مغفرت عطا فرمائے اور مجھ پر رحم کیجئے یقیناً آپ تبکر کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔

(۲) عن عائشة أن رسول الله ﷺ يدعوا في الصلاة.
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحييا وفتنة الممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغنم. الحديث. (صحیح بخاری: ۱۱۵/۱، وصحیح مسلم: ۲۱۷/۱، ومؤطرا مالک: ۱۹۸، ابروایہ ابن عباس)

حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعاء کرتے تھے۔

اے اللہ میں آپ کی ذات کی پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے اور مسکن دجال کے فتنے سے اور حیات و موت کے فتنے سے اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں گناہوں اور قریض کے بارے۔

مسئلہ (۵۱) دعاء سے فارغ ہو کر دامیں باسیں جانب سلام پھیریں، سلام پھیرتے وقت گردن انی موڑیں کہ پیچے بیٹھے آدمی کو آپ کے رخسار نظر آجائیں۔

(۱) عن عامر بن سعد عن أبيه قال: كَتَ أَرْبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بِيَاضِ خَدَّهُ. (صحیح مسلم ارج ۲۱۹)

ترجمہ: حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دامیں اور باسیں جانب سلام پھیرتے ہیاں تک کہ آپ کے رخسار مبارک کی سفیدی کیمی لیتا۔

(۲) عن ابن مسعود أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله حتى أرى بياض خده (رواه الحمسة وصححه الترمذی۔ آثار السنن ارج ۱۲۵)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دامیں باسیں السلام عليکم ورحمة اللہ، السلام عليکم ورحمة اللہ کہہ کر سلام پھیرتے تھے ہیاں تک کہ آپ کے رخسار مبارک کی سفیدی نظر آ جاتی تھی۔

نماز کے بعد دعا

مسئلہ (۵۲) نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگیں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ

ہاتھوں کے اندر ولی حصے کو پھرے کے سامنے کرتے ہوئے اتنا آٹھا میں کہ وہ ہینے کے سامنے آ جائیں اور دعا سے فراغت کے بعد انھیں پھرے پر پھیر لیں۔

(۱) عن أبي أمامة قال: قيل يا رسول الله: أي الدعاء اسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. (من ترمذ و قال حذادعیث حسن: ۱۸۷/۲)

ترجمہ: حضرت ابو امامة رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کونسی دعا بارگاہ خداوندی میں زیادہ سنی جاتی ہے اور قبول کی جاتی ہے آپ نے فرمایا وہ دعا جو رات کے آخری حصہ میں کی جائے اور وہ دعا جو فرض نمازوں کے بعد مانگی جائے۔

(۲) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان يدعوا في دبر صلاته. (التاريخ الكبير للخوارizi: ۸۰۰/۲/۳)

ترجمہ: حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے بعد دعا کرتے تھے۔

وضاحت: حدیث پاک میں لفظ "الدعا" عام ہے جو دعا ہے حاجت اور دعا ہے ماثورہ دونوں کو شامل ہے لہذا اسے دعا ہے ماثورہ کے ماتحت خاص کرنا خلاف اصول ہے، نیز حضرت ابو امامة رضی اللہ عنہ کی حدیث سے فرض نماز کے بعد دعا کے مستحب ہونے کا ثبوت بے تکلف ثابت ہوتا ہے۔

(۳) عن الفضل بن عباس قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة مثنی مثنی ، تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسک وتقع يديك ، يقول ، ترفعهما إلى ربك مستقبلاً ببطونهما وجهك وتقول يارب ومن لم يفعل ذلك فهو كذا و كذا. (من

ترمذی: ارج ۱۸۷، و نماز اور ابن خریبہ فی صحیح: ۲۲۰/۲)

وقال بعد تحرير الحديث "في هذا الخبر" شرح ذكر رفع اليدين ليقول اللهم اللهم ، ورفع اليدين في التشهد قبل التسليم ليس من سنة الصلاة وهذا دال على أنه أمره برفع اليدين والدعاة والمسالة بعد التسليم من المishi: ٢٢١/٢ ، وخرج ابو داود نحوه عن عبد المطلب بن وداعه ، وهو حديث حسن صالح للعمل فقد سكت عنه أبو داود ، وذكره البغوي في فصل الحسان من مصابيح السنة وصدره المنذري ، بعن في الترغيب والترهيب وذلك علامة كون الحديث مقبول عنده ، وصنيع الطحاوي في شرح مشكل الآثار: ٢٤٠/٢٦ ، واضح في أن الحديث صحيح عنده ، ثلاث رسائل في استحباب الدعاء: ٣٢٠/٢٤ تعليقا.

ترجمة: حضرت فضل بن عباس رضي الله عنهما سروري هي كرسول الله عليه نز فرمي نماز (نفل) دو دور رکعت هي، تشهد پڑھو هر دور رکعت میں اور اظہار خشوع، بجز اور مکنت کرو، اور اخوا اپنے ہاتھوں کو یعنی ہتھی کے باطنی حصہ کو چہرے کے سامنے اٹھاؤ اور یارب کہو یعنی دعاماگلو اور جو شخص یہ نہ کرے اس کی نماز ایسی ویسی ہے یعنی ناقص ہے۔

"ام ابن خزیرہ اس حدیث کی تحریج کے بعد لکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں رفع یدين کے ذکر کی تحریج ہے کہ ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا و سوال کرے گا اور سلام سے پہلے بحالت تشهد رفع اليدين نماز کی سنت سے نہیں ہے، نیز یہ حدیث بتاری ہے کہ آپ عليه نمازی کو حکم دیا ہے کہ وہ دور رکعت پڑھ کر سلام کے بعد ہاتھوں کو اٹھائے اور اللہ سے دعا اور سوال کرے۔"

(٤) عن أم سلمة أن النبي عليه السلام كان يقول: إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني استلوك علمًا نافعاً ورزاقي أساها وعملاً متقبلاً.

(من احمد: ٣٠٥٦، وابن ماجہ، وقال الشوکانی رجاله ثقات لولا الجھالة مولیٰ ام سلمة، مثل الاوطار: ٣٢٥٦ (وهي لا تضر عندنا)

ترجمة: حضرت ام المؤمنین ام سلمة رضي الله عنها روایت کرتی ہیں کہ رسول الله عليه نماز فجر کا سلام پھیرتے تو دعا کرتے اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں علم نافع، رزق واسع اور عمل مقبول کا۔

(٥) عن أبي هريرة أن رسول الله عليه رفع يده بعد ماسلم وهو مستقبل القبلة فقال: اللهم خلص الوليد بن الوليد وعياش بن ربعة وسلمة بن هشام وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا من أيدي الكفار ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره: ٨٢٣/١، سورة النساء الآية: ١٠٠ ومتنه كالشمس الامن جهة على بن زيد بن

جدعان وهو يحصل في الشواهد وابواب الفضائل من غير تردد.

ترجمة: حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنہ کہتے ہیں کہ رسول الله عليه نماز سے سلام پھیرنے کے بعد قبلہ رخ رہتے ہوئے اپنے دست مبارک کو اٹھایا اور دعا کی کہ اے اللہ ولید بن ولید، عیاش بن ربیعہ، سلمہ بن هشام اور کزرور مسلمانوں کو جو کسی تدبیر کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ راستے سے واقف ہیں کفار کے ہاتھوں نجات اور خلاصی دے دیجئے۔

(٦) عن محمد بن أبي يحيى قال: رأيت عبد الله بن الزبير ورأى رجلا رافعا يديه يدعو قبل أن يفرغ من صلاته، فلما فرغ منها قال له إن رسول الله عليه لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته. رواه الطبراني قال الهيثمي رجاله ثقات ، مجمع الزوائد: ١٤٩/١٠

ترجمة: محمد بن ابی یحیی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن زیر رضی الله عنہما کو دیکھا کہ انہوں نے ایک شخص کو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہاتھوں کو دعا

کے لیے اٹھائے دیکھا تو جب نماز پڑھ چکے تو اس شخص سے فرمایا کہ آنحضرت ﷺ نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔

ان احادیث مبارکہ کے عموم سے ظاہر ہے کہ نوافل و فرائض کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا آنحضرت ﷺ کی سنت ہے۔

(۷) عن سلمان قال: قال رسول الله ﷺ: ما رفع قوم أكفهم إلى الله تعالى يسألونه شيئا إلا كان حقا على الله أن يضع في أيديهم الذي سألا. اخرج الطبراني في الكبير قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح (مجموع الزوائد: ۱۴۹، ۱۰)

ترجمہ: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! جس قوم نے بھی اپنی ہتھیلوں کو اللہ کی جانب اٹھایا کسی چیز کو مانگتے ہوئے تو اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ان کی مانگی ہوئی چیز رکھ دیں گے۔

(۸) عن حبيب بن مسلمة الفهري قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يجتمع قوم مسلمون يدعون بعضهم ويؤمن بعضهم إلا استجواب الله دعاء هم. (اخراج الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ورواه الطبراني في المعجم الكبير: ۲۶۰/۴، قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة: ۱۷۰/۱۰، وابن لهيعة حسن الحديث والراوي عنه في هذا الحديث هو عبد الله بن يزيد المقرى وهو أحد العبادلة الذين تدرروا بهم عن ابن لهيعة أعدل وأقوى.

ترجمہ: حضرت حبیب بن مسلمہ فہری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قوم مسلم جب جمع ہوتی ہے اور ان میں سے بعض دعا کرتے اور بعض آمین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔

وضاحت: ان دونوں حدیث پاک سے اجتماعی دعا اور اس کی قبولیت کا ثبوت ہوتا ہے پھر یہ اجتماعی عام ہے کہ نماز کے وقت میں ہو یا کسی اور وقت میں حدیث میں اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔

(۹) عن أبي بكرة "موفوعاً" سلوا الله ببطون أكفكم ولا تستلوه بظهورها. (رواہ الطبرانی قال الهيثمی فی جمع الزوائد: ۱۴۹، ۱۰)، رجاله رجال الصحيح غیر عمار بن خالد الواسطي وهو ثقة

ترجمہ: حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنے ہتھیلوں کے اندر وہی حصے اللہ سے مانگا کر دباہری حصے سے نہیں۔

(۱۰) عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: إذا دعوت الله فادع بباطن كفيك ولا تدع بظهورها فإذا فرغت فامسح بهما وجهه . (سنن ابن ماجہ باب رفع اليدين فی الدعا: ۲۷۵/۱، قال السبوطي فی نظر الوعاء: ۷۴/۱، قال شیخ الاسلام، أبو الفضل بن حجر فی أمالیہ: هذا حديث حسن) (وذلك نظرا إلى شواهدہ)

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم اللہ سے دعا کرو تو باطن ہتھیلی سے دعا کرو ہتھیلی کے ظاہر سے وعاء کیا کرو اور جب دعا سے فارغ ہو جاؤ تو ہاتھوں کو چھر سے بھیر لیا کرو۔

(۱۱) عن مالک بن يسار السكوني ثم العوفي أن رسول الله ﷺ قال: إذا سألكم الله فأسئلوا ببطون أكفكم ولا تستلوه بظهورها. سنن ابو داود فی كتاب الصلاة: ۲۰۹/۱ واسناده جيد

ترجمہ: حضرت مالک بن یسار عوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندر وہی ہتھیلوں سے دعا مانگا کرو ہتھیلوں کے باہری حصے سے نہ مانگا کرو

(١٥) عن ابن شهاب الزهري قال كان رسول الله ﷺ يرفع يديه عند صدوره في الدعاء ثم يمسح بهما وجهه. (مصنف عبد الرزاق: ٢٤٧/٢، واستاده صحيح، وهذا الحديث وإن كان مرسلاً فالمرسل حجة عند كثير من المحدثين والفقهاء لاسيما إذا اعتمدت من المرفوع).

ترجمة: امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ رسول اللہ ﷺ دعائیں ہاتھوں کو اپنے سینے تک اٹھاتے تھے پھر (ختم دعا پر) ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیتے تھے۔

ضروری تنبیہ:

مسئلہ (۵۲) میں مذکور کیفیت کے ساتھ فرض وغیرہ نمازوں کے بعد دعائیں کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے ان مذکورہ احادیث سے روز روشن کی طرح ثابت ہے لہذا سے بدعت سمجھنا یا کہنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے: البتہ نماز کے بعد اس طرح دعائیں ایک امر مستحب ہے، لہذا اگر کوئی شخص ایسا نہ کرے تو اس پر انکار و ملامت مناسب نہیں۔

مسئلہ (۵۳) نماز کے بعد ذکر اللہ بھی مستحب ہے اور رسول پاک ﷺ نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔

(١) عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال من سبّ الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وحمد الله ،ثلاثاً وثلاثين ،وكبر الله ثلاثاً وثلاثين ،فتلك تسعه وتسعون وقال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له المُلْك وَلَهُ الْحَمْد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفرَت خطایاہ وان کانت مثل زید البحر . (صحیح مسلم: ٢١٩)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص کہے ہر نماز کے بعد ۳۳ بار

(١٢) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح وجهه (سنن ترمذی كتاب الدعوات: ١٧٦/٢، قال الترمذی: هذا حديث صحيح غريب وفي نسخة غريب بدون لفظ صحيح وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام آخر حديث الترمذی قوله شواهد منها حديث ابن عباس عند أبي داؤد ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن ، وأقرَّ الحافظ علي ذكر ذلك الأمير الصناعي في سبل السلام: ٤٣٣٢-طبع دار المعرفة بيروت ، واستدل بالحديث على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء ، وأقرَّه أيضاً المحدث عبد الرحمن المباركفوری في تحفة الأحوذی: ٣٢٩/٩)

(١٣) عن السائب بن يزيد عن أبيه أن النبي ﷺ كان إذا دعا فرفع يديه ومسح وجهه بيديه. (سنن ابو داود: ٢٠٩/١، وفيه ابن لهيعة روى عنه قتيبة بن سعيد ورواية قتيبة عنه صحيح وشيخ ابن لهيعة في هذا الحديث، حفص بن هاشم وهو مجهول لكن رجع ابن حجر في تهذيب التهذيب: ٤٢٠/٢، ان شيخ ابن لهيعة في هذا الحديث هو حبان بن واسع دون حفص بن هاشم وحبان بن واسع ذكره ابن حبان في الثقات)

ترجمہ: سائب کے والد حضرت یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعائیں ہاتھوں کو اٹھاتے تو (ختم دعا پر) ہاتھوں کو چہرہ مبارک پر پھیرتے تھے۔

(١٤) عن أبي نعيم قال رأيت ابن عمر وابن الزبير يدعوان ويديران بالراحتين على الوجه. (الادب الشرقي لابن خماري: ٦٨٨/٣)

ترجمہ: ابو نعیم وہب کا میان ہے کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر اور حضرت عبد اللہ بن زیر رضی اللہ عنہم کو دعا کرتے ہوئے دیکھا (کختم دعا پر) دونوں حضرات اپنی تسلیموں کو چہرے پر پھیرتے تھے۔

سبحان الله ، ۳۳ بار الحمد لله ، ۳۳ بار الله اکبر ، پس یہ ۹۹ ہوئیں اور آپ نے فرمایا کہ ۱۰۰ اکی تعداد پر کرنے کے لیے کہے " لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک والحمد وهو علی کل شی قدير " تو اس کی خطائیں بخش دی جائیں گی اگرچہ وہ سند رکے جھاگ کے برابر ہوں۔

(۲) عن کعب بن عجرہ قال: قال رسول الله ﷺ: معقبات لا يخرب قاتلهم أو فاعلهم هي بـ صلاة مكتوبة ثلاث وثلاثين تسبيحة، وثلاث ثلاثين تحميدة، وأربع وثلاثين تكبيره. (صحیح مسلم: ۲۱۹)

ترجمہ: حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد کے یہ اذکار ہیں جن کا کرنے والا تمراد نہیں ہو گا، ۳۳ بار سبحان الله ، ۳۳ بار الحمد لله اور ۳۳ بار الله اکبر۔

(۳) عن الحسن بن علي قال: قال رسول الله ﷺ من قرأ آية الكرسي في ذي الصلوة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلوة الأخرى (رواہ الطبرانی فی الكبير قال الهیشی فی مجمع الزوائد: ۱۰ / ۱۰) حسن آثار السنن (۱۲۵/۱)

ترجمہ: فرزند علی وتواسہ رسول حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے جو شخص فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھے وہ دوسری نماز تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔

تنبیہ: احادیث میں فرض نمازوں کے بعد بہت سے اذکار مردی ہیں اس موقع پر بغرض اختصار انہیں پر اکتفاء کیا گیا ہے۔

ضروریوضاحت

اگلی سطور میں نماز کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ مردوں کے لیے ہے

عورتوں کی نماز بعض باتوں میں مردوں سے مختلف ہے لہذا خواتین نمازاً اکرتے وقت درج زیل مسائل کا خیال رکھیں۔
مسئلہ (۵۲) خواتین کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اکیلے گھر میں نماز ادا کریں۔

(۱) عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. (سن ابو داود: ۱۴۱، ۸۳، ومستدرک الحاکم وقال صحيح علی شرط الشیخین واقفۃ الذہبی)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا عورت کی نماز اپنے گھر میں گھر کے ٹھن کی نماز سے بہتر ہے اور اس کی نماز گھر کی چھوٹی کوٹھری میں گھر کی نماز سے بہتر ہے (مطلوب یہ ہے کہ عورت جس قدر پوشیدہ ہو کر نمازاً اکرے گی اسی قدر زیادہ ثواب کی مستحق ہو گی)۔

(۲) عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها. (رواہ الطبرانی فی الأوسط بآسناد جيد الترغيب والترہیب: ۳۲۶۷)

ترجمہ: حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عورت کی نماز اپنی کوٹھری میں بہتر ہے گھر کے بڑے کمرے کی نماز سے اور اس کی نماز اپنے گھر کے بڑے کمرے میں بہتر ہے گھر کے ٹھن کی نماز سے اور اس کی نماز گھر کے ٹھن میں بہتر ہے مکن کی مسجد کی نماز سے۔

(۳) عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله ! إنی أحب الصلاة معك قال قد علمت

أَنْكُ تَحْبِبُ الصَّلَاةَ مَعِيْ ، وَصَلَاتِكَ فِي بَيْتِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ فِي حَجَرَتِكَ وَصَلَاتِكَ فِي حَجَرَتِكَ ، خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ فِي دَارِكَ ، وَصَلَاتِكَ فِي دَارِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ ، وَصَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِي ، قَالَ فَامْرَتْ فِينِي لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمَهُ فَكَانَتْ تَصْلِي فِيهِ حَتَّى لَقِيتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ . (رواه احمد و رجال الصحيح غير عبد الله بن سعيد - الانصارى و روى ابن حبان، مجمع الروايات: ۲/ ۳۳ - ۳۴)

ترجمہ: حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت ام حمید رضی اللہ عنہا سے مردی ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز ادا کروں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ تو میرے ساتھ نماز پڑھنے کی خواہش نہ ہے، حالانکہ تیری کوٹھری کی نماز تیرے بڑے کرے کی نماز سے بہتر ہے اور بڑے کرے کی تیری نماز گھر کے صحن کی نماز سے بہتر ہے اور تیری نماز گھر کے صحن میں محلہ کی مسجد کی نماز سے بہتر ہے اور تیری نماز محلہ کی مسجد میں میری مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔

حضرت ام حمید سے روایت کرنے والے نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کی منشاء سمجھ کر انہوں نے اپنے گھر والوں کو گھر کے اندر مسجد بنانے کا حکم دیا جانچے گھر کے آخری حصہ میں ایک تیرہ وتار کوٹھری میں مسجد بنادی گئی اور وہ اسی میں نماز پڑھتی رہیں یہاں تک کہ اللہ کو پیاری بوسکے۔

نبوت: اس مسئلہ کی تفصیلات کے لیے ہماری کتاب "خواتین اسلام کی بہترین مسجد کا مطالعہ کریں۔

مسئلہ (۵۵) خواتین چہرے، باتھ اور پاؤں کے علاوہ جسم کے

سارے عضو کو ڈھانک کر نماز ادا کریں۔

- (۱) عن عبد الله عن النبي ﷺ قال المرأة عورة. (سن ترمذی: ۱۸۹۱) ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیوی پاک ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: عورت سراپا پردہ ہے۔
- (۲) عن عائشة أن النبي ﷺ قال: لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار. (سن ترمذی: ۱۸۶ و سنابوداود: ۹۳) ترجمہ: حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ بیوی پاک ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے بالغ عورت کی نماز بغیر اوزھنی کے۔ (اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کے لیے سر کے بالوں کا چھپانا بھی ضروری ہے۔

- (۳) عن عائشة أنها سنت عن الخمار؟ فقالت: إنما الخمار ما وارد البشرة والشعر. (السنکبری: ۲۲۵، ۲) ترجمہ: حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے اوڑھنی کے بارے میں پوچھا گیا؟ تو انہوں نے فرمایا اوڑھنی تو وہی ہے جو جسم کی کھال اور سر کے بال کو چھپائے۔ (اس سے معلوم ہوا کہ جس اوڑھنی سے کھال اور بال نظر آئیں وہ اوڑھنی ہے ہی نہیں)

- (۴) عن الحسن قال: إذا بلغت المرأة الحيض ولم تغطِّ أدنهَا ورأها لم تقبل لها صلاة. (مسنون ابن شيرب: ۱۳۰) ترجمہ: حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عورت جب بالغ ہو جاتی ہے اور نماز میں اپنے کافوں اور سر کو نہیں چھپاتی تو اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔

- (۵) عن معید بن جبیر عن ابن عباس قال: "ولايده ين زينهنه"

عورت تجیر تحریم کے وقت مردوں کی طرح ہاتھ اٹھائیں گی (یعنی کافنوں کے قریب تک) تو انہوں نے فرمایا عورت اپنے ہاتھوں کو مرد کی طرح نہ اٹھائے، (پھر عملی تعلیم کی غرض سے) رفع یدین کیا اور ہاتھوں کو نہایت پست اور اپنی جانب سیٹھے رکھا اور فرمایا کہ (نماز میں) عورت کی خاص بیعت ہے جو مرد کی نہیں اور اگر وہ اس بیعت کو اختیار نہ کرے تو کوئی حرج نہیں (یعنی عورت کے لیے یہ بیعت اولیٰ اور بہتر ہے لازم و ضروری نہیں)۔

مسئلہ: (۵۷) خواتین ہاتھ سینے پر باندھیں مردوں کی طرح ناف سے بچے نہیں۔

(۱) مولانا عبد الحجیٰ فرنگی محلی لکھتے ہیں۔

أما في حق النساء فاتفقوا على أن السنة لهن وضع اليدين على الصدر. (العلیٰ: ۱۵۶/۲)

ترجمہ: زبان عورتوں کے حق میں تو اس پر سب کااتفاق ہے کہ عورتوں کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے۔

مسئلہ: (۵۸) خواتین سجدہ میں پیٹ کو رانوں سے اور بازو کو پہلوؤں سے ملا رکھیں۔

(۱) عن ابن عمر مرفوعاً، إذا جلسَتِ المرأة في الصلاة وضعَتْ فخذها على فخذها الآخرى فإذا سجَّتْ الصُّفَّةَ بطنها في فخذها كاستر ما يكون لها وإن الله ينظر إلَيْها ويقول: يا ملائكة! أشهدكم أنني قد غفرت لها. (كتنز لعمال: ۴۹/۵، والسن الكبير: ۱۲، وهو حديث ضعيف كما قال البهقي)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفع عوارویت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عورت جب نماز میں بیٹھے تو اپنی ایک ران کو

إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا" قال مافي الكف والوجه. (السن الكبير: ۲۲۵/۲)

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان "اور عورتیں نمایاں نہ کریں اپنی زینت کو مگر وہ جوان کے بدن سے ظاہر ہے" سے مراد وہ زینت ہے جو ہاتھ اور چہرہ کی ہے کیوں کہ یہ دونوں ستر میں داخل نہیں ہیں۔

مسئلہ: (۵۶) خواتین تجیر تحریم میں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں اسی میں ان کے لیے زیادہ پرده پوشی ہے۔

(۱) عن واائل بن حجر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا واائل بن حجر! إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك والمرأة تجعل يديها حذاء أذنيها. (تجمیع طبرانی کبیر: ۱۸/۲۲)

ترجمہ: حضرت واائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو ہاتھوں کو کافنوں کے برابر اٹھاؤ اور عورت اپنے ہاتھوں کو سینے کے برابر کرے۔

(۲) عن عبد ربہ بن سليمان بن عمیر قال: رأيت أم الدرداء ترفع يديها في الصلاة حذو منكبيها. (جزء رفع اليدين للبخاري: ۷۷، ومصنف ابن أبي شيبة: ۲۳۹/۱)

ترجمہ: عبد ربہ بن سليمان سے مردی ہے کہ انہوں نے حضرت ام الدرداء رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ نماز میں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتی تھیں۔

(۳) عن ابن جریح قال قلت لعطاء تشير المرأة بيديها بالتكبير كالرجل؟ قال لا ترفع بذلك يديها كالرجل، وأشار فخض يديه جداً وجمعهما إليه جداً، وقال للمرأة هيئة ليست للرجل وإن تركت ذلك فلا حرج. (مصنف ابن أبي شيبة: ۲۳۹/۱)

ترجمہ: ابن جریح کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عطاء سے دریافت کیا کہ

دوسری ران پر رکھے (یعنی پیروں کو بائیں جانب نکال کر بچا دے اس طرح دونوں رانیں باہم مل جائیں گی) اور جب سجدہ کرے تو پیش کورانوں سے چپکا لے اس طرح کہ اس کے لیے خوب پرده پوشی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی جانب رحمت کی نظر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے فرشتوگواہ رہو کہ میں نے اسے بخش دیا۔

(۲) عن یزید بن أبي حبیب أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَأَ تِينَ تَصْلِيَانَ، فَقَالَ: إِذَا سَجَدَ تَمَّا فَضْمًا بَعْضَ الْحَمْلِ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ ذَلِكَ لَيْسَ كَالرَّجُلِ. (مراasil ابو داؤد: ۸/، والسنن الکبری: ۲۲۳/۲، فیہ انقطاع وضعف)

ترجمہ: یزید بن أبي حبیب کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ گذرے دو عورتوں کے پاس سے جو نماز پڑھ رہی تھیں تو آپ نے ارشاد فرمایا تم جب سجدہ کرو تو اپنے جسم کے بعض حصہ کو زمین سے ملا لیا کرو کیوں کہ عورت (کی حالت سجدہ میں) مرد کی طرح نہیں ہے۔

(۳) عن أبي إسحاق عن العارث عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال إذا سجدت المرأة فلتتحفظ وتضم فخذليها. (مصنف ابن أبي شيبة: ۴۰۲/۱ طبع کراچی)

حارث سے مردی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا عورت جب سجدہ کرے تو اچھی طرح سٹ جائے اور اسی رانوں کو ملا لے۔

(۴) عن ابن عباس أنه سئل عن صلاة المرأة فقال: تجتمع وتحتفظ. (مصنف ابن أبي شيبة: ۴۰۲)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے عورت کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا وہ سٹ سٹا کر نماز پڑھے۔

(۵) عن ابراهیم قال إذا سجدت المرأة فلتزق بطنه بفخذليها ولاترفع عجزتها ولا تجافي كما يجافي الرجل. (مصنف ابن أبي شيبة: ۳۰۳/۱)

ترجمہ: حضرت ابراهیمؑ نے ہمیں کہا ہے کہ عورت جب سجدہ کرے تو اپنے پیش کورانوں سے چپکا لے اور سرین کو اوپر نہ اٹھائے اور اعضاء کو مردوں کی طرح دور نہ کرے (بلکہ سب کو آپس میں ملائے رکھے)۔

(۶) عن مجاهد أنه كان يكره أن يضع الرجل بطنه على فخذليه إذا سجد كما تضع المرأة. (مصنف ابن أبي شيبة: ۳۰۲/۱)

ترجمہ: حضرت مجاهد سے مردی ہے کہ وہ ناپسند کرتے تھے کہ مرد جب سجدہ کرے تو اپنے پیش کورانوں سے چپکا دے جس طرح عورت تین چپکاریتی ہیں۔

(۷) قال ابراهيم النخعي كانت المرأة تومر إذا سجدت أن تلزق بطنه بفخذليها كيلا ترتفع عجزتها ولا تجافي كما يجافي الرجل. (السنن الکبری: ۲۲۲/۲)

ترجمہ: ابراهیمؑ نے ہمیں کہا ہے کہ عورت کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ جب سجدہ کریں تو اپنے پیش کورانوں سے چپکا لیں تاکہ ان کی سرین اوپر نہ اٹھے اور عورت اپنے اعضاء کو مرد کی طرح ایک دوسرے سے الگ نہ رکھے (بلکہ انھیں ایک دوسرے سے ملا رکھے)

امام تیمی اس سلسلے میں لکھتے ہیں:

اجماع ما يفارق المرأة فيه للرجل من أحكام الصلاة راجع

إلى السترو هو إنما مأمورة بكل ما كان استرلها: (۲۲۰/۲)

یعنی اس سلسلے میں جامع بات ستر اور پرده پوشی کی جانب راجح ہے چوں کہ عورت ہر اس طریقہ کی مجانب شرعاً مامور ہے جس میں پرده پوشی زیادہ

عورتوں کی نماز عصر کی امامت کی توان کے بیچ میں کھڑی ہوئیں۔

(۳) عن صفوان قال: إن من السنة أن تصلي المرأة بالنساء

تقوم وسطهن . کتاب الأم: ۱۶۴/۱

ترجمہ: حضرت صفوان کہتے ہیں کہ یہ بات سنت سے ہے کہ اگر عورت، خواتین کو نماز پڑھائے تو ان کے بیچ میں کھڑی ہو۔

مسئلہ (۲۱) اپنے لام کو سہو پر متبرہ کرنے کے لیے خواتین آواز سے

تسبیح پڑھیں بلکہ دائیں ہاتھ سے باسیں ہاتھ کی پشت پر تحبّ تھادیں۔

(۱) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: التسبیح للرجل

والتصفیق للنساء . (زاد مسلم و آخر دو، فی الصلوة صحیح بخاری: ۱۶۰/۱،

وصحیح مسلم: ۱۰۰/۱، وسنن ترمذی: ۸۵/۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی پاک ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا نماز میں (سہو کے موقع پر) تسبیح مردوں کے لیے اور تصفیق عورتوں کے لیے ہے۔

يقول العبد الضعيف حبيب الرحمن الأعظمي غفر الله له

ولوالديه ولأساتذته وجميع المسلمين . فرغت من تأليف هذه الرسالة

٢٧ / من رمضان المبارك سنة ١٤٢١هـ وله الحمد والمنة وبه

ال توفيق والعصمة .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام

على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه

أجمعين إلى يوم الدين .



ہو، لہذا نماز کے جس طریقہ میں پرده پوشی زیادہ ہو گی وہ عورت کے لیے مستحسن ہو گا، اور اس میں وہ مردوں کے طریقہ کے تالع نہیں ہو گی۔

مسئلہ (۵۹) خواتین دونوں سجدوں کے درمیان اور الحیات پڑھنے کے لیے جب بیٹھیں تو بائیں کو لھے پر زمین سے ہنپک کر بیٹھیں اور دونوں پاؤں دائیں طرف نکال دیں۔

(۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كن يترבעن ثم أمرن أن يحفزن يعني يستوين جالسات على أو راكهن . (جامع المسانيد: ۴۰۰/۱)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عورتیں اس طرح نماز پڑھتی تھیں؟ تو انہوں نے فرمایا چہار زانو بیٹھ کر پھر انھیں حکم ہوا کہ خوب سٹ سٹا کر بیٹھیں یعنی اپنے (بائیں) کو لھے پر جم کر بیٹھیں۔

مسئلہ (۲۰) خواتین اگر اپنی علاحدہ جماعت قائم کریں تو ان کی امام صاف میں کھڑی ہو کر نماز پڑھائے مردوں کے لام کی طرح صاف سے آگئے نہ کھڑی ہو۔

(۱) عن ربيطه الحنفية أن عائشة أمتهن وقامت بينهن في صلاة مكتوبة . (رواہ عبد الرزاق واسناده صحیح آثار السنن: ۱۳۱)

ترجمہ: ربطہ حنفیہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عورتوں کی فرض نماز میں امامت کرائی اور ان کے درمیان میں کھڑی ہوئیں۔

(۲) وعن حجيرة بنت حصين قالت أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بينها . (رواہ عبد الرزاق واسناده صحیح آثار السنن: ۱۳۱)

ترجمہ: حجیرہ بنت حصین کہتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے



www.ahnafmedia.com